
نصاب

برائے

فاؤنڈیشن کورس



اسٹیٹ لائف

انشورنس کارپوریشن آف پاکستان
جملہ حقوق بحق شعبہ تربیت اسٹیٹ لائف پرنسپل آفس کراچی محفوظ ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

احتراز

یہ نصابی کتاب اسٹیٹ لائف کے فیلڈ کارکنان کے فاؤنڈیشن کو رس کے دوران مطالعے کے لئے ہے۔ اس کتاب میں درج کردہ اعداد و شمار اور بیان کردہ اصول و قوائیں صرف صراحت کے لئے ہیں اور انکی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کاری کے تو انہوں ضوابط کیلئے کارپوریشن کے جاری کردہ اعلامیوں سے براہ راست رجوع کیا جائے۔

سناشافت 2021

تعداد 01 عدد

مقام اشاعت کراچی

شائع کردہ انجمن آر ڈی پرنسپل آفس

زیر سرپرستی

جناب محمد ازاد کارخان ایگزیکٹو ڈائریکٹر انجمن آر ڈی

اسٹیٹ لائف انشورنز کارپوریشن آف پاکستان کراچی

زیر نگرانی

جناب سید فیصل تبدیل ڈویٹیل ہڈی انجمن آر ڈی

مجلس ادارت

محترمہ مشاہدہ پروڈیورس سربراہ مجلس / پرنسپل ہڈینگ اکیڈمی ملتان ریجن

جناب محمد علی شاہ رکن مجلس / پرنسپل ہڈینگ اکیڈمی حیدر آباد ریجن

جناب محمد عبدالرحمٰن صدیقی رکن مجلس / شعبہ تربیت ملتان ریجن

جناب محمد نوشاد صدیقی رکن مجلس / شعبہ تربیت حیدر آباد

معاونت

جناب محمد جبیل / انجمن آر ڈی پرنسپل آفس

جناب محمد اخشم فضل / انجمن آر ڈی پرنسپل آفس

پیغام

میں اس موقع پر اسٹیٹ لائف میں بحثیت نمائندہ شمولیت پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ کاری کے پیشے

میں آپ کی کامیابی کیلئے ضروری ہے کہ آپ میں
کام کرنے کی لگن اور قوت اظہار

خود اپنی ذات پر اعتماد

لامحدود آدمی کی خواہش

اپنے بیسے داروں کی خدمت کا جذبہ اور اچھی عادات

وہ ذہنی سوچ جو عارضی رکاوٹوں کی پروادہ کیئے بغیر اہداف حاصل کر سکے

لوگوں کی بیسے زندگی کی خرید کاری کے محکمات کو ضرور سمجھیں کیونکہ یہ فروخت بیسے میں آپ کو زبردست کامیابی دے سکتا ہے میرے
خیال میں لوگوں کی خرید کاری کی وجہات

لوگ بہت سمجھدار ہیں اور بے شمار وجوہات کی نیاد پر خریداری کرتے ہیں

خریداری کا عمل منطقی اور جذباتی وجوہات پر مشتمل ہوتا ہے

موثر ابلاغ اور بہتر قوت ساعت کے ذریعے یک نمائندہ اپنے متوقع گاہک کی خریداری کے عمل میں مدد کرتا ہے
نہ کہ اسے خریداری پر مجبور۔

مجھے اس کتاب کی تیاری کے دوران پر پسل آفس کراچی میں مجلس ادارات کے ساتھ کچھ دی یہ بیٹھنے کا موقع ملا اور میں ان کے جذبہ
سے کافی متاثر ہوا۔

میں جناب سید فضل تہذیب سربراہ شعبہ تربیت اور فاؤنڈیشن کو رس کی تمام مجلس ادارات کو اس کتاب کو بہتر بنانے پر مبارکباد
پیش کرتا ہوں۔ بلاشبہ اکنی یہ کاوش لائق تحسین ہے

جناب محمد اذ کارخان

ایگریکیلوڈ ائر میکٹر (ائچے آر ڈی)

ابتداء سیہ

معزز قارئین!

مجھے آپ سے مخاطب ہو کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کو رس کو ہمارے انہائی محنتی اور ماہرا ساتداہ کرام نے تیار کیا ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اس کو رس کو مجھی اور محنت سے مکمل بچتے، کسی بھی پیشے میں کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور اپنی مہارت میں اضافہ کریں۔

بیہدہ زندگی کے ذریعے ہم خود بیہدہ دار حضرات کو یا ان کے بچوں، بیواؤں اور معذور ہونے والوں کی مالی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ بہت اعلیٰ کام ہے لہذا اس کام کو حسن طریقے سے سرانجام دینا چاہیے۔ مندرجہ ذیل باتیں آپ کیلئے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔

1۔ ملاقات: ایسے افراد سے ملاقات کی جائے جو بیہدہ کے لئے صحت مند ہوں، مالی طور پر موزوں ہوں اور اپنے اخلاقی اقدار کے مالک ہوں۔

2۔ ضرورت کا اندازہ: ان حضرات کی بیہدہ کے تحفظ کی ضروریات کا مناسب طور پر تجھیں لگایا جائے۔

3۔ موزوں پیشکش: بیہدہ زندگی کا مناسب پلان موزوں طور پر پیش کیا جائے۔

4۔ پروپوزل فارم: پروپوزل فارم کو کامل طور پر پید کیا جائے اور تمام کو اتفاق صحیح تجھ درج کئے جائیں۔ پروپوزل فارم میں ذرا سی غلطی سے آپ کا یا بیہدہ دار کا بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں مکمل احتیاط کرنا ضروری ہے تاکہ پالیسی کی منظوری اور خصوصاً کلیم کی ادائیگی کے وقت کوئی مشکل پیش نہ آئے۔

اپنے کام کو منظم طریقے سے کریں۔ کام کے اوقات مقرر کریں، جتنے لوگوں سے روز ملنا ہے ان کی تعداد مقرر کریں۔ پرانے بیہدہ داروں کی خدمت کو اولیت دیں کیونکہ وہ آپ کے لئے آئندہ کاروبار کا ذریعہ ہیں۔ اگر آپ ہفتہ میں چالیس موزوں افراد سے ملاقات کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہر ہفتہ کم از کم ایک پالیسی ضرور حاصل کر لیں گے۔

سید فیصل ہندیب

سربراہ

ہیومن ریسورس ڈوپلمنٹ ڈویژن

☆.....فہرست مضمایں.....☆

صفہ نمبر	مضامین	نمبر شار
1	آپ اور اسٹیٹ لائف انڈسٹریز کا پوریشن	.1
5	ترہیت کے فائدہ اور مقاصد	.2
7	نمائندے کی پیشہ و رانہ ذمہ داریاں اور فرائض	.3
9	ضابطہ اخلاق	.4
14	ایجنسی نظام	.5
17	بیمه زندگی اور اس کے فوائد	.6
20	قابل بیمه مفاد اور انہائی نیک نیتی کی اہمیت	.7
23	بیمه زندگی کے منصوبے	.8
34	اضافی بھتی معاملہ	.9
40	پریکیم کی شرح معلوم کرنے کا طریقہ	.10
45	پروپوزل فارم اور متعلقہ شرائط	.11
52	خطرات کی درجہ بندی	.12
61	پالیسی کے تحت فراہم شدہ حقوق اور شرائط	.13
68	مقطوم فروخت اور اس کا طریقہ کار	.14
73	متوقع بیمه داروں کی تلاش	.15
76	منصوبے کی پیشکش	.16
82	چند مکانہ اعتراضات اور ان کے جوابات	.17
88	تمکیل فروخت کے مختلف طریقے	.18
91	نمائندوں کی کامیابی کے زریں اصول	.19
96	بعد از فروخت خدمات	.20
98	کالعدم پالیسیاں اور کاروبار میں سلسلہ کی اہمیت	.21
103	ریکارڈ کی اہمیت	.22

پیش لفظ

سربراہ مجلس ادارت فاؤنڈیشن کورس

کسی بھی کتاب کی اشاعت میں بہت سارے افراد کی کاوشیں شامل ہوتی ہے ان میں سے کچھ افراد کے نام تو سامنے آ جاتے ہیں جبکہ بہت سارے نام ظاہر نہیں ہو پاتے۔

سید فیصل تہذیب صاحب سربراہ شعبہ تربیت اسٹیٹ لاکف نے تربیت نصاب کی کتب از سرنو اصلاح اور نئے طرز پر پیش کرنے کے لئے جو کمیٹی بنائی اس میں راقم الحروف تحریث سربراہ جبکہ دیگر حضرات کے نام یہ ہیں

محترمہ شازیہ پرویز سربراہ مجلس / پرنسپل ٹریننگ اکیڈمی ملتان ریجن
جناب محمد علی شاہ رکن مجلس / پرنسپل ٹریننگ اکیڈمی حیدر آباد ریجن
جناب محمد عبدالرحمن صدیقی رکن مجلس / شعبہ تربیت ملتان ریجن
جناب محمد نوشا صدیقی رکن مجلس / شعبہ تربیت حیدر آباد

ان تمام افراد نے پہلے ایک مجلس میں بیٹھ کر فاؤنڈیشن کورس کی اس کتاب کی تخلیص و تالیف بعدزاں اپنے مقام تھینا نی پر جا کر بھی یہ کام جاری رکھا۔ اس کتاب مجلس ادارت کے دوران سید فیصل تہذیب صاحب ڈویٹیشن ہیڈ آئی گر آرڈی نے خود بھی شرکت فرمائی جس میں تمام آرکین کی حوصلہ افزائی ہوئی۔

یقیناً اس کتاب میں ابھی بہتری کی گنجائش ہے کیونکہ تربیت نصابی کتب زندہ جام کی طرح تربیت دھنداں کی محنت اور محبت سے نشوونما پاٹی ہیں امید ہے اسٹیٹ لاکف شعبہ تربیت کے آفران خصوص اور اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے عموماً غلطیوں کی نشاندہی اور بہتری کے لئے تجویز شعبہ تربیت کو اسال کریں گے۔ تاکہ ان کی اصلاح کی جاسکے۔

آخر میں ضروری سمجھتی ہوں کہ شعبہ تربیت اسٹیٹ لاکف پرنسپل آفس کے تمام آفیسر ان و اسٹاف کا بھی فردا فردا شکریہ ادا کر دوں جنکی محبت خلوص اور محنت نہ صرف اس کتاب کی دارات و تالیف میں معاون رہی بلکہ راقم الحروف اور تمام آرکین مجلس ادارت کے دل میں اسکا عکس تادیر قائم رہے گا۔

محترمہ شازیہ پرویز سربراہ مجلس / پرنسپل ٹریننگ اکیڈمی ملتان ریجن

باب نمبر 1

آپ اور اسٹیٹ لائف انشوہرنس کار پوریشن

بیمسزندگی ایک سماجی ایجاد ہے۔ جس کا ارتقاء صدیوں پر مشتمل ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے بھی بیمسزندگی کے ادارے موجود تھے۔ جنکی تعداد مخصوص تھی۔ قیام پاکستان کے بعد طبع عنزیر جس عمومی بیمسزندگی کے زیادہ تر اداروں کا تعلق بین الاقوامی کمپنیز سے تھا۔

پاکستان میں بیمسزندگی کے کاروبار کو صدارتی حکم آرڈننس نمبر 10 1972 مارچ 19، کے تحت قومی ملکیت میں لیا گیا اور یقیناً یہ قدم پاکستان میں معاشری تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیمسزندگی کو نہ صرف اس وجہ سے قومی ملکیت میں لیا گیا کہ بڑی صنعتوں کی ملکیت اور بیمسزندگی کی باہم پیوٹگی سے پیدا ہونے والی معاشری قوت کے ارتکاز کو کم کیا جائے اور اس لئے بھی کہ بیمسزندگی کی حفاظت کی جاسکے۔


بیمسزندگی کو قومی ملکیت میں لینے کا کام دو مرحلوں میں مکمل ہوا۔ پہلے مرحلے میں جس میں (19 مارچ 1972ء سے 31 اکتوبر 1972ء تک کا عرصہ شامل ہے) 32 کمپنیوں کی انتظامیہ کو حکومت نے اپنی تحویل میں لیا، پھر ان کو لائف انشوہرنس نیشنل آرڈر کے تحت ٹریسٹیوں اور سب ٹریسٹیوں کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ٹریسٹیوں اور سب ٹریسٹیوں کی سرگرمیوں کو مر بوط کرنے اور ان کی رہنمائی کیلئے بیمسزندگی کا ایک انتظامی بورڈ قائم کیا گیا۔

بورڈ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ منزد کردہ حکم کے دائرہ کارکے اندر بیمسزندگی کی صنعت کو چلانے کے لئے ایک مذکورہ مر بوط نظام کی سفارش کرے۔ بورڈ نے ایک ایسی کار پوریشن کے قیام کی سفارش کی جس میں 3 یونٹ ہوں۔ یہ ایک نیا تصور تھا اور پاکستان کے حالات کو سامنے رکھ کر پیش کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ان ممالک کے طرز انتظام کا بھی بغور مطالعہ کیا گیا۔ جہاں بیمسزندگی کا کاروبار قومی ملکیت میں لیا جا چکا تھا۔

دوسرے مرحلے میں کیم نومبر 1972ء کو تین یونٹوں والی ایک کار پوریشن کا قیام عمل میں آیا۔ جسے اسٹیٹ لائف انشوہرنس کار پوریشن آف پاکستان کا نام دیا گیا۔ کیم اکتوبر 1975ء تین یونٹوں کو ختم کر کے 5 زون بنادیئے گئے۔ آج کار پوریشن 7 ریجن اور 33 زون پر مشتمل ہے۔

				ساؤ تھریجن ☆
کراچی ایسٹرن زون	کراچی سنٹرل زون	-3	-2	کراچی سدرن زون -1
				کوئٹہ زون -4
				حیدر آباد ریجن ☆
سکھر زون	میر پور خاص زون	-3	-2	حیدر آباد زون 1
	لاڑکانہ زون		-5	بے نظیر آباد زون 4
				سنٹرل ریجن ☆
نا رووال زون	لاہور ویسٹرن زون	-3	-2	لاہور سنٹرل زون -1
	سیالکوٹ زون		-5	گوجرانوالہ زون -4
				ملتان ریجن ☆
ریشم پارخان زون	سائیوال زون	-3	-2	ملتان زون -1
وہاڑی زون	ڈیرہ غازی خان زون	-6	-5	بہاول پور زون -4
				نا رتھر ریجن ☆
اسلام آباد زون	گجرات زون	-3	-2	راولپنڈی زون -1
لکھنؤ	میر پور (آزاد کشمیر) زون	-6	-5	چہلم زون -4
				فیصل آباد ریجن ☆
فیصل آباد زون	سر گودھا زون	-3	-2	فیصل آباد زون -1
				خیبر پختونخواہ ریجن ☆
ایبٹ آباد زون	پشاور زون	-3	-2	ایبٹ آباد زون -1
				سوات زون 4- کوہاٹ زون

اسٹیٹ لائف کی بہت ساری عمارتیں میں کچھ کی تصاویر



کار پوریشن کی ترقی کا ایک جائزہ

(Rupees in Million)

<u>2018</u>	<u>1973</u>	
18,918	48	پہلے سال کا پریکیم
85,998	219	تجددیدی پریکیم
4,536	50	گروپ انشوئنس پریکیم
31	-	پیشن پریکیم
114,914	317	کل پریکیم
70,277	81	سرمایہ کاری سے آمدنی
185,192	391	کل آمدنی
53,040	141	بیسداروں کو ادا کردہ رقم
873,813	1494	لائف فنڈ
852,043	1401	سرمایہ کاری کی رقم
8.87%	7%	لائف فنڈ سے آمدنی کی شرح
5,661,397	17,899	زریسکی رقم (کل جاری)
5,907,669	3,57,413	کل بیسداروں کی تعداد

باب نمبر 2

تربيت کی تعریف

کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کیلئے علم اور مہارت حاصل کرنے کا نام ہے۔

تربيت کے فوائد اور مقاصد

تربيت بیمہ نمائندے کو ایک بہترین انسان اور ماہر بیمہ کارکن بناتی ہے اور اس طرح اس پیشہ میں اس کی کامیابی کے موقع زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ تربیت ہی کے سبب اس میں بے پناہ خود اعتمادی اور متوقع بیمہ داروں کی تلاش کی امنگ اور فروخت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔

- 1۔ تربیت سے آ راستہ ہو کر وہ زیادہ بہتر طریق پر کام کرتا ہے۔
- 2۔ بیمہ داروں میں اس کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے۔
- 3۔ سماحتی کا رکنوں میں اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔
- 4۔ اس تربیت کے نتیجہ میں وہ زیادہ بہتر اور مسلسل کاروبار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
- 5۔ اس سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور بیمہ کارکن کی کامیابی کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔
- 6۔ اس کے باعث بعض لپندیدہ عادات کا پیدا ہوتی ہیں جو زندگی کے ہر مورث میں کام آتی ہیں اور نیانمائندہ جلد ہی پالیسی فروخت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
- 7۔ ادارے اور بیمہ زندگی کے منصوبوں کے بارے میں مکمل آگاہی ملتی ہے۔
- 8۔ نمائندہ اپنی خداداد صلاحیتوں کا صحی استعمال کرتا ہے۔
- 9۔ بیمہ فروخت کے متعلق ثابت روایہ اور صحت مند عادات پیدا ہوتی ہیں۔
- 10۔ وقت کا صحی استعمال پر خود کو منظم کر کے موقع میسر آتے ہیں

SECP

سیکوریٹی اینڈ ایچنچ کمیشن آف پاکستان (SECP) کے قوانین کے مطابق تمام بیہمہ نمائندگان کو تین ماہ کا "فاوڈیشن کورس" کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ آپ فاؤڈیشن کورس میں شریک ہو چکے ہیں جس کا انتظام اسٹیٹ لائف کی طرف سے آپ کے ایریا نیجے نے کیا ہے۔ اس کورس کی تکمیل کے بعد آپ کے سیلز بیجٹ آپ کو عملی تربیت کے لئے میدان عمل میں لے جائیگے۔ یہ عملی تربیت بہت اہم ہے اور آپ کے لئے بے حد سودمند ثابت ہوگی اور اس کی مدد سے آپ بہت جلد یہ زندگی فروخت کرنے کے قابل ہو جائیں گے لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ اپنی علمیت کو بروئے کار لا کر فروخت کی تکنیک کو کس قدر جلد سیکھنے اور اپنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

نمائندے کی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں اور فرائض

خوش لباس: "اگر کوئی کارکن چاہتا ہے کہ وہ پر اعتماد

طریقے سے کسی سے ملاقات کرے تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی شخصیت پر توجہ دے۔ اس پیشے کی کاروباری ضرورت ہے کہ نمائندوں کا لباس صاف سترہ جوتے چکدار، چہرہ صاف اور نکھرا ہو، بال سیلیتے سے بنے ہوئے ہونے چاہئیں، ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے اور اس طرح انسانی شخصیت چاق و چوبندا اور پر اعتماد نظر آتی ہے۔

بیسہ کارکن کی شخصیت ایسی ہوئی چاہئے کہ پہلی ہی نظر میں وہ پر اثر اور باوقاز نظر آئے تاکہ متوقع خریدار حضرات اس سے مل کر خوشی محسوس کریں اور کارکن بھی اعتماد کے ساتھ ان کے مسائل کے بارے میں ان سے گفتگو کر سکیں۔

نظم و ضبط: اپنے آپ پر کچھ پابندیاں عائد کر کے اور ابتدائی تربیت حاصل کر کے اپنی زندگی کو منظم کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اس مرحلے سے گزر جائیں تو آپ کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوئی چاہیے کہ آپ کس طرح اپنے آپ پر ایسا کنٹرول رکھیں جس سے دفتری اوقات کی پابندی یا افسری ہدایت کے بغیر اپنا کام ایک پروگرام کے مطابق کر سکیں۔ روزانہ، ماہوار اور سالانہ بنیاد پر اپنے کام کی منصوبہ بندی نہایت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے۔ لہذا دوسرے یہ کہ روزانہ کے کاروباری امور اور کام کا مناسب ریکارڈ رکھئے۔ تیسرا یہ کہ اپنی کارکردگی کو ہر ابر جانچتے رہئے اور کامیابیوں کا اغراض و مقاصد سے اور کوششوں کا نتائج سے موازنہ کرتے رہئے۔

منصوبہ بندی: آپ کو اپنے کام کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی ہے اور اس کا تحریری خاکہ تیار کھانا ہے۔ سب سے پہلے خود اپنی مالی ضروریات متعین کیجئے پھر ان کو کام کی اکائیوں میں بدل دیجئے یعنی دیکھئے کہ کتنا کام کرنے سے آپ کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں،

متوقع بیسہ داروں کی تلاش: ایسے موزوں افراد کی تلاش کرنا جو بیسہ زندگی خریدنے کی الہیت رکھتے ہوں۔

متوقع بیمہ داروں سے ملاقات و فروخت کے لئے راہ ہموار کرنا:

بعد از فروخت بیمہ داروں کو خدمات فراہم کرنا:

اپنے سینئر کا احترام کرنا اور رابطے میں رہنا:

ذاتی ترقی کیلئے کوشش کرنا:

ادارے کے قوانین کے بارے علم رکھنا اور انکی پابندی کرنا:

اپنے کاروبار کا مکمل ریکارڈ رکھنا:

نمائنڈے کی ذمہ داریاں:

- 1 مرتب طریقہ کارکے ذریعے گاگوں کی تلاش تسلسل کے ساتھ رکھنا۔
- 2 معیاری گاگوں کا چناؤ۔
- 3 علاقوں میں اثر و سوخ رکھنے والے افراد کی تلاش کرنا۔
- 4 لوگوں کے فلاج ہبود کے کاموں میں باقاعدگی سے شرکت کرنا۔
- 5 بیمہ داروں کا مکمل ریکارڈ کا نظام رکھنا۔
- 6 بیمہ داروں سے لئے گئے کوائف کاریکارڈ رکھنا۔
- 7 مارکیٹ کا صحیح اندازہ اور لوگوں سے واقفیت قائم رکھنا۔
- 8 نئی مارکیٹ کی تلاش جاری رکھنا۔
- 9 متوقع بیمہ داروں سے ملاقات اور انکی ضروریات کا تعین کرنا۔
- 10 بیمہ کی حکمت عملی اور اصولوں کی بنیاد پر بیمہ کی فروخت مکمل کرنا۔
- 11 بیمہ داروں کو پالیسی فروخت کے بعد خدمات دینا۔
- 12 ایریا آفس، سیکٹر آفس اور زونل آفس سے رابطے میں رہنا۔
- 13 کوئی کام جو ادارے سے ملے اسے مکمل کرنا۔

باب نمبر 4

ضابطہ اخلاق

ضابطہ اخلاق کی مکمل پابندی اولین اہمیت حاصل ہے۔ جس کی بدولت وہ نہ صرف اپنے پیشے کا وقار بلند کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ انہوں نے اس کی بنیادوں کو ایمانداری نیک نیتی، علم اور مہارت کے ذریعے مزید مستحکم کیا تاکہ یہ داروں کے مفاد کی حفاظت کر سکیں اور اپنے معیار خدمت کو بلند یوں کی طرف لے جائیں۔

☆ رکنیت کا عہد

"اسٹیٹ لائف انشوئنس کار پوریشن کے نمائندے کی حیثیت سے میں عہد کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ داروں یا متوقع یہ داروں کے مفاد کو اپنے اور یہ کار پوریشن کے مفاد سے بالاتر رکھوں گا۔ پیشہ ورانہ صلاحیت کا اعلیٰ ترین معیار اپناوں گا تاکہ یہ داروں اور متوقع خریداروں کو بہترین مشورہ اور خدمات فراہم کر سکوں۔ میں یہ داروں کے اعتماد کا پاس کروں گا اور ان کے متعلق جو بھی اطلاعات پیشہ ورانہ ضروریات کی تجھیل کے سلسلے میں وصول ہوں گی ان کا تحفظ کروں گا۔ یہ زندگی کی بحیثیت ایک اعلیٰ اور منظم کاروبار کے تائید اور حمایت کروں گا۔ کار پوریشن کے ضابطہ اخلاق کی پوری تجھیل کروں گا۔"

☆ یہ داروں کے مفاد کی اولیت

نمائنڈے پر لازم ہے کہ وہ متوقع خریداروں اور یہ دار کے مفاد کو اپنے مفاد سے مقدم سمجھے۔ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ تمام اعلیٰ پیشوں سے متعلق کاروباری حضرات اپنے گاہک کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ زندگی کی صنعت سے وابستہ افراد سے اسی خلوص، نیک نیتی، اور ایمانداری کی توقع کی جاتی ہے عملی طور پر اس کا اظہار اس طرح ممکن ہے کہ کارکن اپنے متوقع یہ داروں کو اس قسم اور اس رقم کے یہ کی سفارش کرے جو کہ اس کے حالات اور ان کی ضرورت کے عین مطابق ہو۔ خواہ اس عمل میں کارکن کو ملنے والی کمیشن کی رقم کم ہی کیوں نہ ہو جائے۔

☆ اعتماد کی بنیاد پر فراہم کردہ اطلاعات کا تحفظ

ہر نمائندہ اپنے بیسے داروں اور موقع خریداروں کی فراہم کردہ معلومات کا تحفظ کرے گا۔ دوران کار نمائندے کو بیسے داروں اور موقع خریداروں کے ایسے کوائف اور دیگر معلومات حاصل ہو جاتی ہیں جنہیں وہ عموماً دوسرے افراد اور اداروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ نمائندے کو بیسے دار کے اعتماد پر پورا اتنا ناچاہئے ویسے بھی یہ ایک بہت ہی غیر اخلاقی بات ہے کہ اپنے کسی غیر ذمہ دار نہ طرز عمل سے کسی کے اعتماد کو ٹھیک پہنچائی جائے۔

☆ غلط بیانی

کوئی کارکن بیسے کی فروخت یا بعد از فروخت خدمت کے ذیل میں غلط اور گراہ کن بیان نہیں دے گا۔ ایک کارکن کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر اطلاع کو جس کے ذریعہ افراد بیسے کی طرف راغب ہو سکیں، صحیح اور مکمل طور پر ہم پہنچائیں اور ذاتی مفاد کے پیش نظر اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کریں۔ بیسے کارکنوں کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہر اس بات کا مکمل طور پر اظہار کریں جس کی بنیاد پر کار پوری شدن معاملہ بیسے اور بیسے دار کے افراد بابت درست فیصلہ کر سکے۔ ضروری اطلاعات پوشیدہ رکھنا بھی غلط بیانی کے متراffد ہے۔

☆ ایمانداری

ایمانداری و دیانتداری بہترین اصول ہیں۔ ہر بیشہ، مذہب اور معاشرے میں دیانتداری کو اہمیت حاصل ہے۔ بالخصوص ہمارے پیشہ میں اس کی اہمیت انتہائی زیادہ ہے اگرچہ ہمارا نمائندہ بیسے کی اقسام لند و صول کرنے کا بجا نہیں، پھر بھی بعض بیسے دار اس پر اعتماد کرتے ہوئے رقم اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو تو آپ کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ رقم فوراً افتر میں جمع کرائیں اور رسید جلد از جلد بیسے دار کے حوالے کریں۔

اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی نمائندہ بیسے دار سے بدیانتی کا مرتكب ہوا ہے تو اسٹیٹ لائف نہ صرف اس سے معاملہ منسوخ کر سکتی ہے بلکہ اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جاسکتا ہے خرد برداں ایک ناقابل ضمانت جرم ہے۔ اس لئے نمائندے کو ہمیشہ لین دین میں دیانتداری کو اپنا شعار بنانا چاہئے۔
یاد رکھئے کہ اس پیشے میں کامیابی اور ایمانداری کا چوپی دامن کا ساتھ ہے۔

☆ کاروبار بیمہ کی بدنامی

کوئی کارکن بیسہ زندگی کے کاروبار کو بدنام یا رسوائیں کرے گا اور نہ ہی تحریری یا زبانی کوئی ایسا مود شائع کرے گا جو بد نتی پر مبنی ہو۔ اسی طرح اس کاروبار سے متعلق کسی فرد یا ادارے کی نیک نامی کو داغدار کرنا قانوناً جرم ہے۔

☆ پریمیم کی چھوٹ

چھوٹ سے مراد بیمہ کے سلسلے میں کسی مجوزہ قحط میں ایسی کمی کی ہے جس کا معاملہ پالیسی میں کوئی ذکر نہ ہو۔ اس ضمن میں بیسہ فروخت کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی ادائیگی یا تحفظ یا کسی قسم کا معاملہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ پریمیم میں نقدیا دیگر طور پر چھوٹ دی گئی ہے قانوناً جرم ہے تاہم بیسہ داران کی خاطر توضیح کرنا یا چھوٹے موٹے تھائف دینا عام بات ہے یا ایک عام کاروباری طریقہ ہے جو چھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ بیسہ داروں کو کشید اور قبضتی تھائف دینا پریمیم میں چھوٹ کے مترادف ہے اور اس پر جرمانہ کیا جاسکتا ہے۔

☆ معاوضہ میں شرکت

کوئی نمائندہ بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی کونہ کوئی معاوضہ یا مشاہرہ نہیں دے گا نہ ہی ایسا کوئی وعدہ کرے گا جس سے مذکورہ شخص ایک بیسہ نمائندہ قرار پائے اور نہ ہی اس شخص کو یہ اختیار ہو گا کہ وہ خود کو بیسہ نمائندہ ظاہر کرے۔

☆ مشکوک تعارف سے گریز

کارکن اپنے لیٹر پیڈ، وزینگ کارڈ، تعارفی خطوط و دیگر کاغذات پر مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کو ضرور تحریر کرے گا تاکہ اس کے بیسہ کارکن ہونے کا اظہار ہو سکے۔

- 1 بیسہ کمپنی کا نام
- 2 بیسہ زندگی کا نمائندہ
- 3 اگر نمائندہ کاروبار بیمہ، قانون، اکاؤنٹس یا دیگر مضمایں کی باقاعدہ تعلیمی اسناد کا حامل ہے تو وہ اس کی نشاندھی کر سکتا ہے۔

☆ زبردستی فروخت بیمه

نماہنہ کسی شخص یا ادارے کو بیمه خریدنے پر مجبور نہیں کرے گا اور نہ ایسی کوئی کوشش کرے گا۔ ساتھ ہی کسی کو ایسا کام کرنے سے بھی نہیں روکے گا جسے اسکا جائز اور قانونی حق حاصل ہے۔

☆ پرانی پالیسی ختم کر کے نئی پالیسی جاری کرنا

ضابطہ اخلاق کا ایک اہم تصور یہ ہے کہ کوئی کارکن اس وقت تک کسی بیمه دار کو اس کی پرانی بیمه پالیسی کو ختم کر کے نئی پالیسی کے اجراء یا کسی اور تبدیلی کے لئے رضامند نہیں کرے گا جب تک کہ بیمه دار کے حالات میں تبدیلی کی وجہ سے اسے واقعیت متبادل پالیسی کی ضرورت ہو۔

☆ قرض کے ذریعے اقساط کی ادائیگی

اکثر کارکنان بیمه داروں کو بلاوجہ قرض دلوادیتے ہیں تاکہ وہ قسط ادا کر سکیں اگرچہ عمل غیر ضروری نہیں ہے پھر بھی اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے تو فتنکہ بیمه دار کو اس کی اشارة ضرورت نہ ہو۔

☆ فروخت بیمه کے رجسٹریشن کی تنفسخ

اسٹیٹ لائف کی جانب سے بیدر جسٹریشن کی تنفسخ سے بیمه کی فروخت کاری کا حق منسون سمجھا جائے گا۔

☆ باعزت مقام

کارکن پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا طرز عمل اختیار کرے جس کے ذریعے وہ بیمه زندگی کی صنعت میں ایک باعزت مقام حاصل کرے اور ایسی صلاحیت کا حامل ہو جو اسے عوام کی زیادہ بہتر خدمت کے قابل بناسکے۔

☆ بیمه کارکنان سے توقعات

رجسٹرڈ بیمه کارکنان کو چاہئے کہ وہ اپنے لئے خود قواعد و ضوابط تیار کریں نیز اسٹیٹ لائف کے مقرر کردہ ضابطوں کو بھی پیش نظر رکھیں۔ جوان کے پیشہ و رانہ طریقوں اور رویوں کی گمراہی کرے لہذا خود اپنے لئے ضابطے بنانا اور ان پر عمل کرنا پیشہ و رانہ اخلاقیات کے نقطہ نظر سے بہت ضروری ہے۔

☆ پیشہ و رانہ رویہ ☆

بنیادی طور پر کارکن کا پیشہ فروخت کاری ہے لہذا اسے چاہئے کہ وہ اپنی تمام سرگرمیوں میں پیشہ و رانہ رویہ اختیار کرے۔ پیشہ و رانہ رویہ کا مطلب ذاتی دیانت ہے۔ اس کے عملی اظہار کی صورت یہ ہے کہ کارکن بیہدہ زندگی کے مختلف منصوبوں میں اپنے متوقع بیہدہ دار کے لئے بیہدہ زندگی کا وہی منصوبہ تجویز کرے جو اس کے حالات اور مالی وسائل اور ضرورت کے مطابق ہونے کے ایسا منصوبہ جس میں کارکن کو زیادہ سے زیادہ معاوضہ کی امید ہو۔

☆ دیگر ماہرین اور پیشہ و رافراد کے کیسا تھا کار و باری تعلقات ☆

جو بیہدہ کارکن ایک ماہر کے طور پر پہچانے جانے اور بطور مشیر مالی اپنی شناخت کا خواہشمند ہے وہ ہمیشہ پیشہ و رانہ طور سے اپنی خدمات فراہم کرتا ہے جس میں اہم ترین دیگر ماہرین اور پیشہ و رافراد سے تعلقات ہیں۔ جائیداد کی منصوبہ بندی اور کار و باری بیہدہ میں ایسے موقع بھی آتے ہیں جبکہ کارکن کو قانونی مشوروں، اکاؤنٹس اور ٹرست کے متعلقہ ماہرین سے واسطہ پڑتا ہے۔ تعلقات کی روح تعاون اور دوسروں کی مہارت تسلیم کرنے میں مضر ہے۔ اگر بیہدہ زندگی کے متعلق کارکن کا مشورو دوسرے ماہرین اور کار و باری لوگ قبول کرتے ہیں تو کارکن کو بھی چاہئے کہ وہ دوسروں کی کار و باری اور پیشہ و رانہ الیت اور مہارت تسلیم کرے نہایت کوئی بھی چاہئے کہ دوسرے حضرات مثلاً اکیلوں، اکاؤنٹس اور ٹرست کے ماہرین کے احاطہ کار میں خل اندازی نہ کرے۔

☆ پیشہ و رانہ صلاحیت میں مسلسل اضافہ ☆

ہر کارکن کا یہ فرض منصوبی ہے کہ وہ اپنے قیمتی وقت اور استعداد کا کچھ حصہ اپنی کارکردگی اور وسعت علم کے لئے وقف کرے۔ اعلیٰ ترین پیشہ و رانہ صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لئے دیگر باتوں کے علاوہ کارکنوں کو چاہئے کہ وہ کار پوریشن کے تیار کردہ کورس، سیمینار اور مینگ میں شرکت کریں۔ تعلیمی مشاغل میں حصہ لینے سے کارکنوں کے علم اور بصیرت میں اضافہ ہو گا اور وہ بیہدہ داروں کی بہتر خدمت کے ساتھ ساتھ اپنی آمدنی نمایاں میں اضافہ کر سکیں گے۔

☆ شکایات کیلئے طریقہ کار

کار پوریشن کے فرائض منصبی میں یہ امر بھی شامل ہے کہ جملہ شکایات کی تحقیقات کرے اور حسب ضرورت انضباطی اور تادیبی کارروائی عمل میں لائے لہذا اہر کن پر فردا فردا لازم ہے کہ وہ کسی بھی غیر اخلاقی طرز عمل سے اجتناب کرے اور جیسے ہی کسی فرد کی کوئی ناپسندیدہ حرکت اس کے علم میں آئے وہ فوراً مروجہ طریقہ کار کے مطابق شکایات درج کرائے۔

باب نمبر 5

اچنی نظام

اسٹیٹ لائف نے ایک مکمل اور بہتر اچنی نظام نافذ کیا ہے۔ اس نظام کے تحت تربیت یافتہ کل وقی پیشہ و رسمائندہ اور حقیقی اور تربیت یافتہ جزوی کارکن کام کریں گے۔ اس کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔

- 1۔ صحیح معنوں میں کاروباری انداز میں فیلڈ کی تشکیل اس طرح ہو کہ فروخت اور خدمت عمده طریقے سے کی جاسکے، بیمه کارکن کو اس محنت کا معقول معاوضہ مل سکے۔
- 2۔ اپنے نمائندوں کے جائز حقوق پر بغیر کسی برے اثر کے اخراجات کے تناوب میں کمی کر کے بیمه داروں کے مفادات کا تحفظ۔

3۔ تمام نئے اور پرانے بیمه نمائندوں کی تربیت

- 4۔ بیمه زندگی کے نئے کاروبار کو ترقی دینا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معیار کو بہتر بنانا اور کاروبار کے تسلسل کو مشتمل کرنا۔

☆ بیمه نمائندوں کا تقرر

بیمه نمائندہ کار پوریشن میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ متوقع بیمه دار اور کار پوریشن کے درمیان رابطہ کی پہلی کڑی ہے۔ بعض اوقات نمائندہ کے رویے کو دیکھ کر کار پوریشن کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے۔ متوقع بیمه دار کے لئے بیمه نمائندہ ہی کار پوریشن ہوتا ہے۔

☆ فیلڈ سٹرپ چھر

(1) کمیشن کا شرح نامہ

تیرے سال اور آگے	پہلا سال کا کمیشن	دوسرے سال کا کمیشن	مدت پالیسی
5%	10%	26.25%	1 سے 14 سال
5%	10%	29.75%	15 سے 19 سال

5%	10%	35%	20 اور زائد سال
پر موشن پالیسی	(ب)		
سیلز نیجربنے کیلئے مندرجہ ذیل قواعد ضوابط لاگو ہوں گے۔	-1		
تین کینٹر سال کی مدت تک کار پوریشن سے مسلک رہنا ہوگا۔	-2		
چھلے دو سالوں میں ہر سال کا پریمیم کم از کم 12,18,74,790 اور 12 عدد پالیسیاں ہونا ضروری ہے۔	-3		
پر سینٹسی 75%۔	-4		
تیسرا سال کا پریمیم کم از کم 13,45,830 اور 12 عدد پالیسیاں ہونا ضروری ہے۔	-5		
پر سینٹسی 80%۔	-6		
فاوڈیشن کورس اور Mosc بھی مکمل کر لیا ہو۔	-7		
ادارہ سمجھتا ہے کہ نمائندہ بھرتی چنانہ تغییر اور گہدافت کے پہلو سے نمایاں واقفیت رکھاں پر عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔	-8		
اخلاق کردار پر کوئی شک نہ ہو۔	-9		
ہم وقت کام کرنے کی گارنٹی SM اور AM دے دیں اور کار پوریشن اس کو قابل قبول کرے۔			

گروپ انشورنس کی سہولت

یہ سہولت پچھلے سال کی کارکردگی کی بنیاد پر ایک سال کیلئے دی جائے گی۔ ساتھ ہی اس سال کی کاروباری استقامت (Persistency) کی شرح بھی پوری ہوئی ضروری ہے۔

گروپ انشورنس کی سہولت	پہلے سال کا پریمیم
کچھ نہیں ملے گا	= 49,999 پچھاں سے کم
75,000/=	59,999 سے 50,000/=
10,00,00/=	1,49,000/= سے 60,000/=
1,50,000/=	2,49,999 سے 15,0000/=
2,50,000/= روپے	250,000 یا اس سے زائد روپے
	انٹری عمر۔ 18 سال۔ 65 سال کی عمر تک

☆ فروخت کا سالانہ کوٹھ

ہر نمائندے کو فروخت کا سالانہ کوٹھ مکمل کرنا ضروری ہے جو 2019 میں 168,228 روپے ہے اس میں ہر تین سال بعد 25% کی شرح سے اضافہ ہو گا۔

☆ کارکردگی بونس

20% فیصد کوئی تکمیل پر 2.5% فیصد سہ ماہی بونس اسی سہ ماہی میں ملے گا۔

☆ اضافی کارکردگی بونس

سال کا ہدف اور استقامت کا رو بار کی شرح کی تکمیل پر اضافی بونس 2.5% ملے گا۔

باب نمبر 6

بیمہ زندگی اور اس کے فوائد

☆ بیمہ زندگی کیا ہے ؟

زندگی کا بیمہ انسان کے لئے تحفظ کی توقعات پوری کرنے اور عدم تحفظ کے خدوں سے بچنے کا ایک وسیلہ ہے۔ تحفظ حاصل کرنے کی خاطر انسان کام کرتا ہے اور روپیہ کماتا ہے تاکہ اپنے اور اپنے خاندان کے لئے چار بنیادی ضروریات پوری کر سکے۔

رہائش	3	خوارک	1
تعلیم اور ادوبیات	4	لباس	2
قبل از وقت موت			-1
ضعیفی یا طویل عمری			-2
معدوری ----- حادثے یا بیماری کے سبب			-3
بے روزگاری			-4

مذکورہ بالا چار خطرات میں سے کوئی بھی اگر حقیقت بن جائے تو خاندان بنیادی ضروریات سے محروم ہو سکتا ہے ان ناگہانی حالات میں جو اکثر اوقات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان ان کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ صرف بیمہ زندگی کی رقم اس کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے۔

ہم کام کیوں کرتے ہیں؟

روپیہ کمانے کے لئے

چار بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لئے ان چار خطرات کے پیش نظر

بیہدہ زندگی ایک ایسا منصوبہ پیش کرتا ہے جس کے تحت انسان ایک معہدہ (بیہدہ) خرید کر ایک خطرہ برداشت کرنے والے ادارے (کارپوریشن) میں شامل ہو جاتا ہے۔ بیہدہ پالیسی کے تحت کاپوریشن، بیہدہ دار کے انتقال کی صورت میں، بیہدہ دار کے منتخب کردہ شخص یا اشخاص (وارثوں) کو ایک باہمی طے شدہ قم ادا کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ یا اگر انہوں نہ پالیسی ہو تو یہ قم خود بیہدہ دار کو زندہ رہنے کی صورت میں ادا کر دی جاتی ہے۔ ادا یعنی کا وعدہ بیہدہ دار کے اس وعدے کے جواب میں کیا جاتا ہے جس کے تحت وہ اسٹیٹ لائف کومرچ رہا واقعات پر ایک منصوص رقم (پریم) ادا کرتا ہے۔

بیہدہ زندگی جائیداد بنانے کا آسان ترین اور موجودہ طریقہ ہے۔ بچت کے دوسرا طریقوں میں پہلے بچانا اور پھر بنانا، پڑتا ہے۔ جیسے سیونگ بینک وغیرہ جہاں پہلے بچت کیجئے اور پھر پسیہ حاصل کیجئے۔ موزوں مثال کے طور پر اگر آپ تمیں برس کی عمر سے اگلے پچیس برس تک متواتر 10000 روپے سالانہ پس انداز کرتے رہیں تو 55 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد آپ کے پاس 2,50,000 روپے ہوں گے اور اس کا انحصار بھی "اگر" پر ہے۔

لیکن اگر آپ زندہ رہے تو آپ پیچوئی کلیم کے حقدار ہوں گے۔ بصورت دیگر آپ کے ورثا ڈیتھ کلیم کے حقدار ہوں گے۔

(خاکہ دیکھتے)

پہلے بنائیے پھر بچائیے

لیکن بیہدہ زندگی کے ذریعے سے آپ فی الحقيقة پہلے ملکیت بنائیتے ہیں پھر اس کے لئے بچانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جوں ہی 10000 روپے کا پہلا پریم ادا کرتے ہیں، آپ 250,000 روپے کی ملکیت بنائیتے ہیں اور اسی لمحے سے ناگہانی موت یا اچانک معدوری کا خوف دور ہو جاتا ہے۔

اگر بیہدہ دار پہلا پریم ادا کرنے کے بعد نہ رہے تو 250,000 روپے کی قم اس کے خاندان کو ادا کر دی جاتی ہے اور اگر وہ مکمل طور پر معدور ہو جائے تو وہ آئندہ پریم ادا کرنا بند کر دیتا ہے (پریم ادا کرنے کی شرط ختم کر دی جاتی ہے تاہم 55 سال کی عمر میں 250,000 روپے مل جاتے ہیں۔)

(خاکہ دیکھتے)

پہلے بچائیے پھر بنائیے

بیہدہ زندگی آپ کے بچت کے منصوبے کا ضامن ہے خواہ آپ طویل عمر پائیں یا قبائل از وقت موت واقع ہو۔

☆ خود کار بچت کا منصوبہ ☆

بیشتر لوگوں کے لئے روپیہ بچانا واقعی بڑا مشکل کام ہے متنعد لوگوں کے پاس اتنی قوت ارادی نہیں ہوتی کہ وہ بچت کے ایک طویل المیعاد منصوبہ پر کاربندرہ سکیں۔

☆ کیونکہ ☆

ان کو پہلے بچت کرنے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے پھر بچت شروع کرنی ہوتی ہے۔

ان کو آخر اجات میں کمی کرنی پڑتی ہے تاکہ آمدنی کا ایک حصہ پس انداز ہو سکے۔

3- بچت کے اداروں تک پابندی سے جانے کے لئے کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔

کسی وقت ضرورت یا کسی مفروضہ ہنگامی حالت کی خاطر بچائی ہوئی رقم کو نکالنے کی خواہش پر قابو پان مشکل کام ہے اگرچہ یہ ضروری ہے کہ مالی پریشانی یا کسی خاص خواہش یا وقت ضرورت سے قطع نظر ایک منصوص رقم ضرور پس انداز ہوتی رہے۔

جی ہاں! پابندی کے ساتھ روپیہ بچانا بہت مشکل کام ہے۔

ہنگامی ضروریات کے لئے محفوظ سرمایہ پیدا کرنے کے لئے یہ زندگی کے علاوہ بچت کے دیگر منصوبے مسئلے کا محض جزوی حل پیش کرتے ہیں یہ زندگی کے علاوہ بچت کے منصوبوں میں باقاعدگی نہیں کرانی جاتی، پھر بچت کا اپنی گھنے خود کوئی مقصد نہیں جب تک اسے مستقبل کے مالی منصوبوں سے ہم آہنگ نہ کیا جائے۔ یہ زندگی کے ذریعے بچت کے دستور ایک اس پہلو کو جذباتی اور قلبی بنیاد فراہم کی جاتی ہے یہ جذباتی پہلو اپنی جگہ اتنا پراثر اور مستقبل کی ضروریات اتنی واضح ہوتی ہیں کہ کوئی باشور شخص بچت کے اس منصوبہ سے دست بردار نہیں ہوتا۔

بچت کے دیگر طریقوں کے برخلاف یہ زندگی ہنگامی حالات کے لئے محفوظ سرمایہ پیدا کرنے کا ایک نہایت عمدہ طریقہ ہے کیونکہ انسان بچت کو اپنی زندگی کی لازمی ضرورت سمجھتا ہے۔ جب پریکیم واجب الادا ہوتا ہے تو یہ دارکو ایک نوٹس بھیجا جاتا ہے وہ مطلوبہ رقم ادا کرنے پر مائل ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کہتھ بچت کا یہ منصوبہ مستقبل کے کسی منصوص مقصد کے تحت شروع کیا گیا تھا اور مقصد کی تکمیل تک اس منصوبے کو جاری رکھنا اس کی ضرورت ہے اسے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ منصوبہ صرف اس لئے شروع کر سکتا تھا کہ اس کی صحت اچھی تھی اور اس کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ ایسا ہی منصوبہ شروع کرے تو شاید ڈاکٹری نقطہ نظر سے اسٹیٹ لائف کے لئے قابل قبول نہ ہو اس بات کو بھی خوب سمجھتا ہے کہ بڑھتی ہوئی عمر کے باعث موجودہ منصوبہ کی شرائط دوبارہ حاصل نہیں کر سکے گا۔

....."یہ زندگی کا کوئی نعم البدل نہیں".....

قابل بیمه مفاد

انہائی نیک نیت کی اہمیت

حالات چھپانے اور غلط بیانی کے اثرات

قابل بیمه مفاد وہ قانونی مقصد ہے جس کے تحت بیمه زندگی کا معابدہ عمل میں آتا ہے۔ ہر شخص وسائل کے مطابق اپنے لئے جائیداد کے حصول کا قانونی حق رکھتا ہے اس لئے وہ اپنی زندگی پر جس رقم کا بھی بیمه چاہے خرید سکتا ہے۔ اس طرح ہر شخص کو خود اپنی زندگی میں لامحدود قابل بیمه مفاد حاصل ہوتا ہے۔

بیمه زندگی کے معابدے میں قابل بیمه مفاد کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ مالی نقصان کی صورت میں کون لوگ متاثر ہوں گے تاکہ اس نقصان کے ازالے کے لئے بیمه کار پورشن سے رجوع کر سکیں۔ دوسرے الفاظ میں اس مفاد کی رقم اس حد اور قانونی جواز پر محصر ہوتی ہے جس کے تحت بیمه دار اس کے ورثا یا پالیسی میں مالی مفادر کھنے والے دیگر افراد متعلقہ بیمه کاروں (موجودہ صورت میں اسٹیٹ لائف) سے وصول کر سکتے ہیں۔ بیمه کے دیگر شعبوں میں یہ رہنمای اصول کا رفرما ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اس کے مکمل نقصان کی صورت میں اس سے زیادہ فوائد مہیا نہیں کرنے جانے چاہئیں جتنا کہ واقعی اس کا نقصان ہوا ہے۔ بیمه زندگی میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ بھی اصول اپنایا گیا ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی موت سے مالی نقصان پہنچنے کا اندریشہ ہے یا اس کے زندہ رہنے سے اس کو فوائد حاصل ہوتا ہے تو وہ اس زندگی کا بیمه کر سکتا ہے اور بیمه دار موجودہ صورت میں اسٹیٹ لائف سے مالی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔

☆ قابل بیمه مفاد کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں

- 1- ہر شخص کو خود اپنی زندگی میں لامحدود قابل بیمه مفاد حاصل ہوتا ہے وہ اپنی جائیداد بنانے کے لئے جس رقم کا بھی چاہے بیمه خرید سکتا ہے۔

-
-
-
- 2- بیوی کو شوہر کی زندگی میں اور شوہر کو بیوی کی زندگی میں لامحدود قابل بیمه مفاد حاصل ہوتا ہے۔
- 3- کار و بار کے شرکاء میں ان کے حصہ تک۔
- 4- اپنے ملازم کے سلسلہ میں مالک کو اس مالی تقاضان تک جو ملازم کی موت سے پہنچے۔
- 5- قرض خواہ کو اپنے قرضوں کے سلسلے میں قرض کی حد تک قابل بیمه مفاد حاصل ہوتا ہے۔

☆ انتہائی نیک نیت (Good Faith)

عام اشیاء کی فروخت کرنے والے کے لئے لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کے نقصان کو ظاہر کرے۔ یہ خریدار کی ذمہ داری ہے کہ مال خود کیجئے اور جانچے۔ اس قسم کا کار و بار "خریدار ہوشیار باش" کے اصول پر طے پاتا ہے۔ بیمه زندگی میں خطرات کا اندازہ لگانے کے لئے درکار یہ شتر معلومات کا علم بیمه کے خواہشمند کو ہوتا ہے۔

بعض اوقات طبی معائنه سے بھی ایسی معلومات حاصل نہیں ہو پاتیں جو کسی پروپوزل کو منظور کرنے میں اندر رائٹر کے فیصلے پر اشناز ہو سکتی ہیں۔ اس بناء پر انتہائی نیک نیت کا اصول بیمه کے زندگی کے کار و بار کی بنیاد ہے۔ لہذا بیمه کے خواہشمند پر لازم ہے کہ وہ تمام حقائق ظاہر کر دے کیونکہ صرف اسی کو اپنی زندگی سے متعلق خطرات کا پورا علم ہوتا ہے کون سی بات اہم ہے اور کوئی نہیں یہ طے کرنا اس کا کام نہیں اسے وہ تمام باتیں بتادیں چاہئیں جو وہ جانتا ہے۔ بیس میں انتہائی نیک نیت کا اصول توڑنے یعنی بات چھپانے اور ظاہر نہ کرنے کی صورت میں کار پوریشن کو اختیار ہے کہ وہ بینے کو رد کر دے یا اسے کا عدم قرار دے۔

☆ حالات چھپانے اور غلط بیانی کے اثرات

(I) بیمه دار پر

جبیسا کہ بتایا جا چکا ہے پروپوزل فارم داخل کرنے اور طبی معائنه کے وقت اپنی صحت، پیشے خاندان کے طبی پس منظروں نیزہ سے متعلق جملہ معلومات بغیر کسی کمی بیشی کے ظاہر کرنا بیمه دار کا فرض ہے مجوز (Proposer) کو تمام معلومات خود اپنے آپ اس وقت تک فراہم کرنی چاہئیں جب تک کہ کار پوریشن خطرے کی ذمہ داری قبول کر کے منظوری کی اطلاع نہ دے۔ مثلاً اگر تجویز پیش کرنے کے بعد لیکن پہلی قسط بیمه (پریمیم) کی ادائیگی سے قبل دل کا دورہ پڑتا ہے تو یہ لازمی ہے کہ وہ کار پوریشن کو مطلع کر دے حالت ظاہر کرنے کا فرض خطرے کی ذمہ داری قبول کرنے تک رہتا ہے کسی کا عدم (Lapsed) پالیسی کی بحالی کے وقت بھی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کار پوریشن انتہائی نیک نیت کے ساتھ بیمه دار

کے ہر تحریری بیان اور دوسری معلومات کو جو وہ فراہم کرے قبول کرتی ہے۔ اگر بعد میں یہ معلوم ہو کہ بیمه دار کے بیانات یا معلومات جو اس نے فراہم کی تھیں حقیقتاً درست نہیں اور اگر درست معلومات کی وجہ سے کارپوریشن اس وقت مختلف فیصلہ کر سکتی تھی تو ایسی صورت میں کارپوریشن کو مکمل اختیار ہے کہ پالیسی کے معابدے کے نافری طور پر ختم کر دے۔

(ب) بیمه نمائندے پر

اگر بیمه نمائندہ زبانی یا تحریر آکوئی غلط بیان جاری کرتا یا کوئی ایسی غلط معلومات فراہم کرتا ہے جو پالیسی کی شرائط، منافع یا بونس یا دوسرے منافعوں کو صحیح ظاہر نہیں کرتی یا کسی پالیسی کا ایسا نام یا عنوان استعمال کرتا ہے جو اس کی صحیح نوعیت کا عکاس نہیں ہے تو اسے غلط بیانی سے موسم کیا جاتا ہے۔ بیمه نمائندہ کی غلط بیانی اس کو قانونی الجھنوں میں پھنسانے سے قطع نظر خود اس کی اور کارپوریشن کی بدنامی کا سبب نہیں ہے۔ مزید بر اس سے بیمه زندگی کے پیشے کی نیک نامی پر حرف آتا ہے۔

باب نمبر 8

بیمه زندگی کے منصوبے

انفرادی بیمه پالیسیاں عام طور پر تین قسم کی ہوتی ہیں

میقاتی بیمه (Term Insurance)

تاجیاتی بیمه (Whole Life Insurance)

معیادی بیمه (Endowment Insurance)

تاہم ان تینوں اقسام کے اندر کافی فرق ہے اور ان کے علاوہ بہت سی پالیسیاں مخصوص ضروریات کے لئے بطور خاص تیار کی گئیں ہیں یہ تمام مخصوص مقاصد کی پالیسیاں دو یا تین بنیادی پالیسیوں کے امتداد سے بنتی ہیں۔ ان کے علاوہ انفرادی پیشہ کی پالیسیاں بھی ہوتی ہیں۔ تین بنیادی پالیسیوں اور چند مخصوص قسم کی انفرادی پالیسیوں کے مختصر خاکے درج ذیل ہیں۔

☆ میقاتی بیمه (Term Insurance)

- یہ پالیسیاں کسی خاص کیلئے خاص مدت تک عارضی تحفظ کے لئے مناسب ترین ہیں جن کی مثالیں درج ہیں۔
- 1۔ یروں ملک سفر کی صورت میں سفر کے خطرات سے تحفظ حاصل کرنے کیلئے۔
 - 2۔ قرض ادا کرنے کے لئے قرض کی مکمل ادائیگی سے پیشہ موت کی صورت میں قرض ادا کرنے کے لئے۔
 - 3۔ خاندان کی شدید ترین ضروریات کے دور میں (جب بچے بڑے ہو رہے ہوں) زائد تحفظ حاصل کرنے کے لئے ایسے دور میں لوگوں کو کم سے کم خرچ پر زیادہ سے زیادہ بیمه کا تحفظ درکار ہوتا ہے۔ اسٹیٹ لائف کی تحفظ رہن ٹیبل پالیسیاں اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔

ٹیبل نمبر 01 تا حیاتی بیسہ (Whole Life Insurance)

یہ پالیسی تمام زندگی پر مالی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اسٹیٹ لائف کی یہ پالیسی 85 سال کی عمر میں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس میں 85 برس کی عمر تک مسلسل پر یکیم ادا کیا جاتا ہے۔ اس پالیسی کی قدر و قیمت میقانی بیسہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن بیسہ زندگی کے تمام منصوبوں کے مقابلے میں اس کی شرح پر یکیم سب سے کم ہیں۔ اس سے عملاً ساری زندگی کے لئے سب سے کم قیمت پر زیادہ سے زیادہ مالی تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس منصوبے میں بیسہ دار کی کم از کم عمر 10 سال سے لیکر 65 سال تک ہونی چاہیے۔ خاندان کے لئے زیادہ سے زیادہ تحفظ کا خیال اس منصوبے کا محرك ہے۔ یہ پالیسی ان نوجوانوں کے لئے نہایت موزوں ہے جن کے وسائل محدود ہیں اور کم سے کم خرچ پر اپنے خاندان کے لئے معقول تحفظ چاہتے ہوں، اس منصوبے کے ذریعے دوسری اہم ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔

ٹیبل نمبر 02 محدود ادائیگی کا تا حیاتی بیسہ

Whole Life Insurance by Limited Payment

یہ پالیسی عام تا حیاتی پالیسیوں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ پر یکیم صرف ایک محدود مدت تک ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ 01 کے عکس پر یکیم کی ادائیگی 85 سال کی عمر تک نہیں کی جاتی۔ پر یکیم کی ادائیگی کا جو وقت منتخب کیا گیا ہوا س کے اختتام پر پالیسی ادا شدہ پالیسی کی صورت میں جاری رہتی ہے اور بیسہ کی رقم مع بونس اگر ہوں قبل از وقت موت یا بیسہ دار کے 85 سال تک زندہ رہنے کی صورت میں ادا کر دی جاتی ہے۔

ٹیبل نمبر 03 معیادی بیسہ (Endowment Insurance)

یہ منصوبہ پالیسی کی تکمیل پر یا خدا نخواستہ بیسہ شدہ شخص کے انتقال پر ایک خاطر خواہ رقم مہیا کرتا ہے۔ اس رقم کو مندرجہ میں انفرادی اور کنبہ کی ضروریات کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

- ﴿ ریٹائرمنٹ کے بعد کی معاشی ضروریات کے لیے۔ ﴾
- ﴿ کاروبار کے استحکام اور وسعت کے لیے۔ ﴾
- ﴿ بچوں کی تعلیم اور شادی کیلئے۔ ﴾
- ﴿ زمین کی خریداری یا مکان کی توسعہ کے لیے۔ ﴾
- ﴿ قرض کی ادائیگی وغیرہ کے لیے۔ ﴾

- پالیسی کی مدت کم از کم 10 سال سے لیکر 55 سال تک۔
- پالیسی ہولڈرز کی عمر کم از کم 10 سال سے 65 سال تک۔

ٹیبل نمبر 05 سے ادا آئنگ پالیسی

Three Payment Policy

(1) بیمه زندگی کا سہ ادا آئنگ منصوبہ

اس اعتبار سے منفرد ہے کہ بیمه دار پالیسی کی مدت کے دوران تین مساوی وقوف میں بیمہ شدہ رقم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیمہ زندگی کے ذریعہ مالی تحفظ بھی حاصل کرتا ہے۔ اس منصوبے کی مزید خصوصیات آگے درج ہیں۔

1۔ بیمہ زندگی کا سہ ادا آئنگ منصوبے کے تحت اگر بیمه دار زندہ رہتا ہے تو پالیسی کی ایک تہائی مدت کے اختتام پر بیمہ شدہ رقم کا 25% واجب الادا ہوتا ہے۔ اسی طرح دو تہائی مدت کے اختتام پر مزید 25% اور پالیسی کی مدت اختتام پر بیمہ شدہ رقم کا باقیہ 50% اور جمع شدہ بونس بھی بیمہ دار کو ادا کر دیا جاتا ہے۔

2۔ اگر بیمہ شدہ رقم کا 25% حاصل کرنے کی سہولت مقررہ تاریخ کے چھ ماہ سے زائد کی مدت میں حاصل نہ کی گئی ہو تو چھ ماہ کی مدت کے بعد اپیشل بونس پالیسی کی قابل ادا زیر بیمیع کی 25% قسط میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح (الف) خدا نخواستہ بیمہ دار کے انتقال کی صورت میں (اگر پالیسی جاری ہے) تو اپیشل بونس ان فوائد کے علاوہ ہو گا۔

(1) بنیادی زر بیمیع۔

(2) جمع شدہ بونس۔

(3) اسٹریٹ لائف سے کسی قسط کی رقم جو حاصل نہ کی گئی ہو۔

(ب) اگر زر بیمہ کے تحت قابل ادا آئنگ اقساط وصول نہ کی گئی ہوں تو پالیسی کی مدت کے اختتام پر اپیشل بونس قابل ادا آئنگ ہو گا اس کے علاوہ پالیسی پر جمع شدہ بونس بھی ادا کیا جائیگا۔

(ج) جب تک پالیسی جاری ہو بیمہ دار کو اختیار ہے کہ غیر وصول شدہ اقساط اور اس سے متعلق اپیشل بونس کو سرمندر Aggregate Cash Surrender (Surrender) کرائے۔ ایسی صورت میں ان دونوں مددوں کی مجموعی Value غیر وصول شدہ قسط سے کسی طرح کم نہیں ہو گی۔

ٹیبل نمبر 06 مشترکہ میعادی بیمه (Joint Life Endowment Ins)

اس منصوبہ کے تحت دونوں اشخاص کی زندگیوں کا ایک ہی پالیسی کے ذریعہ بیمه کیا جاتا ہے زریمہ کی رقم بمعنی بنس یا تو پالیسی کی مدت مکمل ہونے پر اصل پریمیم بیمہ دار کو یادوں بیمہ داروں میں سے کسی ایک کے قبل از وقت انتقال کی صورت میں زندہ رہنے والے بیمہ دار کو ادا کی جاتی ہے۔
پریمیم کی ادائیگی پالیسی کی مدت تک یا پہلے بیمہ داروں میں سے ایک موت تک جاری رہتی ہے۔

نوٹ:

- 1- اس منصوبہ کے تحت یہ خریدنے والے دونوں اشخاص کو دو علیحدہ علیحدہ پروپوزل فارم بھرنے پڑتے ہیں۔
- 2- دونوں حضرات کو علیحدہ علیحدہ قابل بیمہ ہونے کا ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے۔
- 3- پریمیم دونوں بیمہ داروں کی مساوی عمر کا تعین کرنے کے لئے پہلے دونوں بیمہ داروں کی عمر وہ کام معلوم کیا جاتا ہے پھر دی ہوئی جدول کے مطابق مساوی عمر کا تعین کیا جائے گا (جدول صفحہ نمبر 30 پر ملاخت کریں)

ٹیبل نمبر 07 بیمہ تحفظ اطفال Child Protection Policy

یہ پالیسی باپ اور بیٹی یا بیٹیوں کے نام پر مشترکہ طور پر جاری کی جاتی ہیں۔ اس منصوبہ کے تحت کارپوریشن پالیسی صرف باپ کو پریمیم ادا کنندہ تسلیم کرتی ہے۔ اگر باپ زندہ نہ ہو یا اس کی زندگی کا بیمہ نہ ہو سلتا ہو تو مان کو ادا کنندہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن ان پر مخصوص شرائط کا اطلاق ہو گا جو خاتون بیمہ داروں کے لئے تعین کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ دار کنندہ نہیں ہو سلتا۔

- 1- اگر پریمیم کی ادائیگی کرنے والا بیمہ کی میعاد پوری ہونے سے قبل انتقال کر جائے تو پریمیم کی ادائیگی رک جائیگی اور بچے کو حسب ذیل طریقے سے ادائیگی کی جائے گی۔
- الف۔ بیمہ کی میعاد ختم ہونے پر بچے کو بیمہ کی رقم کی فی ہزار روپے پر 100 روپے سالانہ زریمہ کا ماہانہ اقساط میں ادا ہوں گے۔
- ب۔ ادا کنندہ کے انتقال کے وقت تک جمع ہونے والے بنسوں کے ساتھ میعاد ختم ہونے پر زریمہ کی کل رقم ادا کی جائے گی۔
- ج۔ خدا نخواستہ اگر بچہ پالیسی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے انتقال کر جائے تو ادا کنندہ کو بچے کی عمر کے حساب سے رقم کی بمعہ بنس ادائیگی کی جائے گی۔

اس منصوبہ میں 5 سال کے بچے کو ADB کا اضافی معاهدہ دیا جاسکتا ہے

ٹیبل 18 - دینہ بیسہ زندگی

چونکہ ہمارے ملک کی آبادی کا پیشتر حصہ دیہاتوں میں رہا شپر ہے اس لئے یہ منصوبہ ان لوگوں تک یہہ زندگی کے فوائد پہنچانے کے لئے متعارف کرایا گیا ہے اس کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔

1- بیسہدار کی عمر اور پالیسی کی مدت

پالیسی لیتے وقت بیسہدار کی عمر کم از کم 20 سال اور زیادہ سے زیادہ 55 سال ہونی چاہئے۔ پالیسی کی مدت صرف 15 سال یا 20 سال مقرر کی جاسکتی ہے۔

2- زندہ رہنے کی صورت میں فوائد:

الف: اگر بیسہدار پالیسی کی میعاد مکمل ہونے تک زندہ رہے تو اسے زر بیسہ کی پوری رقم بمعہ مساوی بنس ادا کر دی جائے گی۔

ب: زر بیسہ کے مطابق پر یکیم میں رعایت دی جاتی ہے۔

ج: اس پالیسی پر پالیسی فیس وصول نہیں کی جاتی۔

3- وفات کی صورت میں ورثا کے لئے مالی تحفظ:

الف: قدرتی موت واقع ہونے کی صورت میں زر بیسہ کی رقم، بع جمع شدہ بنس ادا کر دی جائے گی۔

ب: حادثاتی موت واقع ہونے کی صورت میں زر بیسہ کا تین گناہ، بع جمع شدہ بنس ادا کر دیا جائے گا۔

ج: زرعی مشینی مثلاً ٹرکیٹ، تھریش یا والٹر پمپ وغیرہ کی زد میں آ کر موت واقع ہو جائے تو زر بیسہ کا پانچ گناہ، بع جمع شدہ بنس ادا کر دیا جائے گا۔

4- پر یکیم کی ادائیگی میں رعایت:

اگر قدرتی افات مثلاً سیلا ب، بارش، مٹی دل، ڈالہ باری، خشک سالی اور کریٹوں مکڑوں کے حملے کی وجہ سے فصل کو نقصان پہنچ جائے اور اسی دوران قحط بھی واجب الادا ہو جائے تو بیسہ دار چھ ماہ کے دوران بغیر لیٹ فیس اور طبی معائنے کے پالیسی کو بحال کر سکتا ہے۔

5- خود کار ادائیگی اقسام:

پر یکیم کی ادائیگی صرف سالانہ یا شماہی بنیاد پر وصول کی جاتی ہے۔ ماہانہ یا سہ ماہی بنیاد پر قحط وصول نہیں کی جاتی۔

6- طریقہ ادائیگی: اگر بیسہ دار نے دوسال تک با قاعدگی سے اقساط ادا کی ہوں اور پھر کسی وجہ سے پر یکیم کی

ادائیگی نہ کر سکے تو پر یکیم کی واجب الادا تاریخ سے آئندہ دو سال تک پالیسی برقرار رہے گی۔

ٹیبل 19 - جیون ساتھی پلان

جیون ساتھی پلان کے تحت شادی شدہ گھر بیوی خواتین اور کاروباری شراکت دار کی معاشی و مالی اہمیت اور قدر و قیمت کو ان کی معاشی و مالی اہمیت اور قدر و قیمت کے برابر تسلیم کیا گیا ہے اور ان کے مساوی تحفظات کا بندوبست کیا گیا ہے۔ جیون ساتھی پلان کی چند نمایاں خوبیاں اس کی فرودخت میں بجا طور پر معاون ثابت ہونے کی البتہ رکھتی ہیں۔

مثال۔

الف۔ اس پلان کے ذریعے میاں اور بیوی اور کاروباری شراکت دار کو بیسے زندگی میں مہیا شدہ تحفظات کو یکساں طور پر فراہم کیا گیا ہے۔

ب۔ اس میاں اور بیوی اور کاروباری شراکت دار کو مساوی مالکانہ حقوق حاصل ہیں نیز اس پلان کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔

ج۔ یہ پلان جذباتی طور پر ان کی زندگی میں پچھلی اور ان کے آپس کے تعلقات میں استحکام پیدا کرتا ہے۔

☆ اس منصوبہ کے لئے متوقع بیسے داروں کی نشاندہی

☆ نیاشادی شدہ جوڑا

☆ وہ تمام حضرات و خواتین جن کی شادی ماضی قریب میں انجام پائی ہو۔

☆ وہ تمام شوہر اور ان کی شریک حیات جوازدواجی زندگی میں مسلک ہو کر اپنی اور اپنے خاندان کے افراد کی معاشی بہتری کے خواہاں ہیں۔

☆ مشترک کاروبار کے شراکت دار میں سے کسی کے انتقال کی صورت میں اس کے ورثاء کو بیسے حاصل شدہ رقم ادا کر دی جاتی ہے اور کاروباری سرمایہ پوری طرح محفوظ رہتا ہے۔

☆ اس منصوبہ کے مخصوص فوائد:-

☆ میاں بیوی اور کاروباری شراکت دار میں سے کسی ایک کی قبل از وقت وفات کی صورت میں کار پوریشن زندہ سلامت ساتھی کو پورا زبردیسہ ادا کرے گی۔

☆ کلیم کی ادائیگی کے بعد بھی زندہ سلامت ساتھی کو بیسے کا تحفظ حاصل رہے گا۔ ایسی صورت میں مزید پر یکیم کی

- ادائیگی نہیں ہوگی۔ مزید برآں یہ پالیسی کارپوریشن کے منافع میں براہ رکی شریک ہوگی۔
- ☆ زندہ سلامت ساتھی کی قبل از وقت موت کی صورت میں کارپوریشن ایک بار پھر و ثاء کو مکمل زریمہ مع منافع کے ادائیگی کی ذمہ دار ہوگی نیز ایسی صورت میں معابدہ ختم تصور کیا جائے گا۔
- ☆ اگر اللہ کے فضل و کرم سے دوسرا ساتھی پالیسی کی مقررہ مدت تک زندہ سلامت رہتا ہے تو کارپوریشن اسے زر بید کی پوری رقم مع منافع کے ادا کرے گی۔ باوجود اس کلیمہ کی رقم کے جواہ ساتھی کی قبل از وقت موت کی صورت میں ادا کی جا چکی ہے۔
- ☆ ایسی صورت میں جبکہ شوہر اور بیوی دونوں پالیسی کی مدت پوری ہونے تک بفضل تعالیٰ زندہ سلامت ہوں تو کارپوریشن ان دونوں کو مشترکہ زریمہ مع منافع ادا کرے گی۔

درخواست بیمه کا طریقہ کار

- الف۔ اس پالیسی پلان کے تحت دوالگ الگ تجویزی فارم (پرپوزل) پُر کئے جائیں گے۔ ایک شوہر کے نام سے اور دوسرا بیوی کی طرف سے بُنس پارٹنرز ہونے کی صورت میں دونوں پارٹنرز کے علیحدہ علیحدہ۔
- ب۔ جہاں میڈیکل ٹیسٹ کا اطلاق ہوتا ہے وہاں کارپوریشن کے مرتب کردہ درجہ بندی کے قوانین کی روشنی میں شوہر اور بیوی یا دونوں پارٹنرز کو الگ الگ طبعی معائنه کروانا ہوگا۔
- ج۔ پریکیم کی ادائیگی پہلے سے طے شدہ خاص مدت تک کرنی ہوگی تاہم کسی ایک ساتھی کی قبل از وقت موت کی صورت میں مزید پریکیم کی ادائیگی نہیں ہوگی۔

☆ مساوی عمر کا تعین:

Uniform Seniority Table کے مطابق اگر شوہر اور بیوی کی عمروں میں فرق جدول کے مطابق

مساوی عمر معلوم کجئے۔

تو زیادہ عمر سے یہ گھٹاد بجئے	جب دونوں عمروں کا فرق حسب ذیل ہو
صفر	ایک سال کا فرق
1 سال	" " 3 2
2 سال	" " 6 4

3 سال	" " "	967
4 سال	" " "	13610
5 سال	" " "	17614
6 سال	" " "	24618
7 سال	" " "	35625

میاں بیوی کے علاوہ کاروبار میں شریک لوگوں کے لئے بھی مشترکہ معیادی بیس پالیسی بہت مناسب ہے کیونکہ کاروبار میں شریک دونوں بیسے داروں میں سے کسی ایک موت کی صورت میں اس کے ورثاء کو بیس سے حاصل شدہ رقم سے ادائیگی کر دی جاتی ہے اور کاروباری سرمایہ پوری طرح محفوظ رہتا ہے۔

☆ شاد آباد منصوبہ ٹیبل نمبر 36

شاد آباد منصوبہ تین عوامل پر مشتمل ہے۔ مثلاً دس لاکھ زر بیس کے بنیادی اندھومنٹ بامناف پالیسی پر تمام معامل کے بوس اور ٹریننگ بوس و قیافو قیافاً اعلان شدہ بوس کی شرح سے پالیسی کے معیاد کے مطابق بامناف پالیسی دے جائیں گے جو کہ اس منصوبے میں شامل ہوتے ہیں۔

اور

اس کے علاوہ خدا نخواستہ پالیسی کی مدت کے دوران کسی بھی وجہ سے وفات کی صورت میں دس لاکھ روپے اضافی ادا کرنے جائیں گے۔ اس اضافے سے وفات کی صورت میں قابل ادائیگی دس لاکھ روپے کی ادائیگی کے بجائے مجموعی طور پر انتقال کی صورت میں فوائد 20 لاکھ روپے ہوں گے۔

اور

حدائقی موت کی صورت میں مزید 20 لاکھ روپے ادا کرنے جائیں گے اس طرح مذکورہ بالا 20 لاکھ روپے کے بجائے حدائقی موت کی صورت میں کل ادائیگی 40 لاکھ روپے ہوگی۔
اس منصوبے میں مزید کون سے اضافی معاهدے شامل کئے جاسکتے ہیں؟
شاد آباد منصوبہ میں صرف F.I.B (خاندانی آمنی کا معہدہ اقساط کی منسوخی کا معہدہ اور علاج معالجه اور جراحی) A.I.B. معہدے شامل کئے جاسکتے ہیں ان معہدوں کی شمولیت کا انحصار انڈر ریسرکی صوابدید، بیسہ کرانے کی عمر، پالیسی کی تکمیل مدت اور متعلقہ اضافی معہدے کی شرائط و ضوابط کے مطابق ہوگا۔

☆ شاداً باد منصوبہ کی خاص بات

عام طور پر حادثاتی موت کے اضافی معابرے کے تحت حادثاتی موت کے تحفظ کی حد بیسہ دار کی عمر 60 سال ہے لیکن شاداً باد منصوبہ میں یہ تحفظ پالیسی میں از خود موجود ہے اس لئے حادثاتی موت کا تحفظ پالیسی کی مدت کے اختتام تک جاری رہے گا۔ خواہ یہ معیاد بیسہ دار کی عمر 60 سال سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ عام حادثاتی موت کے اضافی معابرے کے تحت حاصل ہونے والے فوائد اور شاداً باد منصوبہ میں موجود حادثاتی موت کے فوائد میں یہ بڑا اور واضح فرق ہے۔

☆ سدا بہار پلان Table - 74

یہ سدا ایگی منصوبہ ہے جسمیں ADB شامل ہے جس کی وجہ سے اس منصوبہ میں تحفظ (Risk Coverage) ڈبل ہے۔ متوقع پالیسی ہولڈر کی عمر 20 سال سے 60 سال تک ہونی چاہیے اور پالیسی کی مدت 21, 18, 15, 12, 27, 24, 30 اور 36 سال ہے۔ پالیسی کی مدت 1/3 پوری ہونے پر زریعہ رقم کا 20% S.B دیا جاتا ہے۔ اس طرح 2/3 مدت پوری ہونے پر مزید زریعہ رقم کا 20% S.B دیدیا جاتا ہے اور باقیا 60% زریعہ بعج بوس مپھرٹی پر ادا کر دیا جاتا ہے۔ S.B نہ لینے کی صورت میں اس میں اپیش بوس دیا جاتا ہے۔ اس منصوبہ کے بوس ریٹ ٹیبل 05 کے بوس کی نسبت 25% زائد ہیں۔
نوت:- یہ منصوبہ بغیر ADB کے بھی دستیاب ہے۔

ٹیبل 75 چائلڈ اجوکیشن اسٹڈی میرج بلان

بچوں کی تعلیم اور شادی کا منصوبہ

یہ منصوبہ کون خرید سکتے ہیں؟

یہ منصوبہ صرف والدین تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ منصوبہ نانا، نانی، دادا، دادی، بچا، تالیا، ماموں خالہ، پھوپی وغیرہ بھی اپنے نواسانو اسی، پوتے پوتیوں، بھانجے بھتیجیوں کے بہتر معاشری مستقبل کیلئے خرید سکتے ہیں۔

خصوصیات:

اس منصوبہ کے تحت بیسہ دار کو اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم یا شادی کے لئے معقول رقم مل سکتی ہے۔ بیسہ دار اپنی مرنی کے مطابق بچے کی اس عمر کا انتخاب کر سکتا ہے جس پر پالیسی کی مدت مکمل ہو جاتی ہے۔ ان عمروں میں ہی بچوں کو مالی تحفظ

اور معافت کی ضرورت ہوتی ہے۔

بیمه شدہ شخص کے انتقال کی صورت میں واجب الادارم

اگر پالیسی کی مدت کے دوران بیمه شدہ شخص کی موت واقع ہو جائے تو آئندہ پریمیم کی اقساط معاف کر دی جاتی ہیں۔ لیکن پالیسی مکمل زر بیمه کے ساتھ اٹھیٹ لاکف کے بونس میں شریک رہتی ہے۔ پالیسی کا زر بیمه اور مکمل مدت کے جمع شدہ بونس، پالیسی کی تکمیل میعاد پر قبل ادا ہوتے ہیں۔ نیز اس کے ورثاء کو زر بیمه کے 24 فیصد سالانہ کے حساب سے یعنی 100,000 زر بیمه کی پالیسی پر 24,000 سالانہ خاندانی فوائد کی ادائیگی شروع ہو جاتی ہے، یہ ادائیگی پالیسی تکمیل میعاد تک جاری رہتی ہے۔

بچے کے انتقال پر بیمه دار کے اختیارات

خداخواستہ اگر وہ بچہ انتقال کر جائے جس کے لئے یہ پالیسی خریدی گئی تھی تو اسی صورت میں بیمه دار کے پاس تین اختیارات ہوتے ہیں۔

☆ پالیسی کسی اور بچے کے نام منتقل کر دے اور اسے جاری رکھے۔

☆ پالیسی کی دستبرداری کی مالیت یا اس وقت تک کا ادا شدہ مجموعی پریمیم (جو بھی زیادہ ہو) وصول کر لے اور پالیسی ختم کر دے۔

☆ کسی دوسرے بچے کو نامزد کرنے بغیر پالیسی جاری رکھے۔

☆ اقساط میں رقم لینے کا حق

بچے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تکمیل مدت پر ملنے والی یکششت رقم کو پانچ مساوی سالانہ اقساط میں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ نہایت موزوں اختیار ہے جسے حسب ضرورت استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً اعلیٰ تعلیم کے لئے کوشش شخص کو با قاعدہ وقوف یا قسطوں میں رقم کی ضرورت پڑتی ہے۔

اس منصوبہ کے تحت کون سے ضمنی معاملہ شامل کیے جاسکتے ہیں؟

اس منصوبے کے ساتھ خاندانی فوائد کا ضمنی معاملہ (FIB)، میقاتی بیمه کا ضمنی معاملہ (TIR)، حادثاتی موت اور تلافی کے معاوی خاندانی معاملہ (AIB)، حادثاتی موت کا ضمنی معاملہ (ADB)، پریمیم کی اقساط کی معافی کا ضمنی معاملہ (WP) اور (SWP) پریمیم کی اقساط کی معافی کا خصوصی معاملہ شامل کیے جاسکتے ہیں۔

☆ محفوظ پلس منصوبہ (ٹیبل نمبر 78)

عمر کی حد 20 سے 55 سال

پالیسی کی میعادیں 15 سے 25 سال تک۔

اس پلان میں 24% خاندانی آمدni کا معابدہ FIB جو کہ 15 سال کے لئے ہے اور حادثاتی موت کا معابدہ شامل ہے

پالیسی کے فوائد

مچور یہی کلیمہ:

اگر زیریں دار مقررہ معیادتک زندہ رہے تو یہہ دار کو زیریسمہ تمام بونس بعہ اپیشل ٹریمنل بونس ادا کئے جائے گے۔

کسی وجہ سے وفات پر پالیسی کا زیریسمہ + جتنے سال پالیسی چلی اسکے بونس اور 24 نیصد FIB آنے والی پالیسی کی سالگردہ کی تاریخ سے 15 سال کے لئے ادا کیا جائے گا۔

hadathatی موت پر مندرجہ بالا فوائد کے علاوہ زیریسمہ کے برابر مزید رقم ادا کی جائے گی پلان میں ADB کے علاوہ 26 FIB نیصد تک اور دیگر تمام اضافی معابدے شامل کئے جاسکتے ہیں

اضافی ضمانتی معاہدے

- 1- **حادثاتی موت اور تلاشی کا معاہدہ(Accident Indemnity Benefit-AIB)**
- ☆ یہ ضمانتی معاہدہ خود مختار مردوں اور عورتوں (درجہ A(I) اور A(II)) کی خواتین (جو کہ فائدہ مندر روزگار سے وابستہ ہوں) کو دیا جاسکتا ہے۔
- ☆ یہ ضمانتی معاہدہ 18 تا 55 سال کی عمر کی بالغ زندگیوں پر اس مدت تک دیا جاسکتا ہے جو 60 سال کی عمر پر یا اس سے پہلے ختم ہو جائے۔ یہ معاہدہ نابالغ زندگیوں کو میسر نہیں۔
- ☆ اس ضمانتی معاہدہ کی زیادہ سے زیادہ مدت بنیادی پالیسی کا پریمیم ادا کرنے کی مدت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
- ☆ تمام حادثاتی تحفظات کے لئے زیادہ سے زیادہ زربیمہ 1,00,00,000 روپے ہے۔
- ☆ اس حد کے اندر ایک ہی زندگی پر جاری کردہ پالیسیوں پر تمام ضمانتی معاہدہ بمعہ نسلک حادثاتی تحفظات کے شامل ہیں، (جیسا کہ T.18, T.14 اور T.36 میں ہیں)۔
- ☆ AIB کے لئے زربیمہ مندرجہ ذیل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
- بنیادی پالیسی کے زربیمہ یا
(الف)
زربیمہ کی سالانہ آمدنی کا تین گنا (جو بھی کم ہو)۔
(ب)
- ☆ معیاری زندگیوں کے لئے شرح پریمیم جوڑ کے پیشہ پر انعام کرتے ہوئے 4 روپے فی ہزار تک ہو گی۔
- ☆ جوڑیمہ کے پیشے اور صحت کو منظر رکھتے ہوئے پریمیم لیا جائے گا۔ غیر معمولی خطرہ یا کسی اور جسمانی نقص کی موجودگی میں یہ ضمانتی معاہدہ نہیں دیا جائے گا یا پھر پریمیم میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔
- ☆ یہ ضمانتی معاہدہ 07-T (پنج کی زندگی پر) 23, 18, 22, 14, 10, D.N.A. ایکیم کے تحت پالیسیوں پر نہیں دیا جاسکتا۔ جیسا کہ جنگ اور ہوابازی کے خطرے کے معاہدے میں استثنائی تحفظات ہیں اس لئے یہ ضمانتی معاہدہ آرمی فورسز کا کرنوں کو دینا مناسب نہیں۔

2۔ حادثاتی موت کار آئندہ (Accidental Death Benefit-ADB)

- ☆ یہ خمنی معاملہ 55 سال کی عمر تک کے افراد کو دیا جاسکتا ہے۔
- ☆ اس خمنی معاملہ کی زیادہ سے زیادہ مدت بنیادی پالیسی کا پریمیم ادا کرنے کی مدت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
- ☆ تمام حادثاتی تحفظات کے لئے زیادہ سے زیادہ زربیسہ 100,00,000 کروڑ روپے ہے۔
- ☆ اس حد کے اندر ایک ہی زندگی پر جاری کردہ پالیسوس پر تمام خمنی معاملہ بعد مسلک حادثاتی تحفظات کے شامل ہیں، (جیسا کہ T14, T.18 اور T.36 میں ہیں)۔
- ☆ ADB کے لئے زربیسہ مندرجہ ذیل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
 - (الف) بنیادی پالیسی کے زربیسہ یا مجوز بیسہ کی سالانہ آمدنی کا تین گنا (جو بھی کم ہو)۔
 - (ب) قابل بیسہ افراد کے لئے جو مخطوط پیشہ سے وابستہ ہوں عام شرح پریمیم 1.25 روپے فی ہزار زربیسہ ہے۔
 - ☆ مجوز بیسہ کے پیشے اور صحت کو منظر رکھتے ہوئے پریمیم لیا جائے گا۔ ایسے پیشوں کیلئے زائد پریمیم لیا جائے یہ معاملہ عام ریٹ سے ڈیڑھ گناہ دو گنا پر دیا جاسکتا ہے۔ غیر معمولی خطرہ یا کسی اور جسمانی تنفس کی موجودگی میں یہ خمنی معاملہ نہیں دیا جائے گا یا پھر پریمیم میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔
 - ☆ یہ خمنی معاملہ 7-07 (بچے کی زندگی پر) T.09, 14, 18, 22, 23 اور D.N. اسکیم کے تحت پالیسوس پر نہیں دیا جاسکتا۔

3۔ خاندانی آمدنی کا خمنی معاملہ (Family Income Benefit -FIB)

- ☆ یہ خمنی معاملہ خود مختار مردوں اور عورتوں کو دیا جاسکتا ہے جو فائدہ مندرجہ زگا سے وابستہ ہوں۔
- ☆ یہ خمنی معاملہ 20 تا 55 سال کی عمر کی بالغ زندگیوں پر اس مدت تک دیا جاسکتا ہے جو 65 سال کی عمر پر یا اس سے پہلے ختم ہو جائے۔ یہ معاملہ نابالغ زندگیوں کو میسر نہیں۔
- ☆ اس خمنی معاملہ کی زیادہ سے زیادہ مدت بنیادی پالیسی کا پریمیم ادا کرنے کی مدت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
- ☆ FIB بنیادی زربیسہ کے 10% سے 50% تک جاری کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ آمدنی کا فائدہ مجوزہ بیسہ کی کمائی کی آمدنی کے تقریباً 60% تک رہے۔

مجوز بیمه کے داخلے کی عمر پر انحصار کرتے ہوئے معیاری زندگیوں کے لئے جو محفوظ پیشے سے وابستہ ہوں عام

☆

شرح

پریمیم ریٹ بک میں موجود ہے

☆ مجوز بیمه کے پیشے اور صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے پریمیم لیا جائے گا۔ غیر معمولی خطرہ یا کسی اور جسمانی نقص کی موجودگی میں یہ نصیحت معاہدہ نہیں دیا جائے گا یا پھر پریمیم میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔

☆ یہ معاہدہ T-07 (بچے کی زندگی پر) سے تحت جاری کردہ پالیسوں پر اور پریمیم ادا کرنے والی زندگی پر زریسم کے 40% کے زائد اگر ہو اور 23,14,18,22, N.D. اور A.I. نام کے تحت پالیسوں پر نہیں دیا جاسکتا۔

4- میقانی بیمه (Term Insurance Rider- TIR)

اصنی معاہدہ تاحیاتی اور معیادی بیموں کے ساتھ شامل کیا جاسکتا ہے۔ رائڈر کی معیاد کے دوران اگر بیمه دار کی موت واقع ہو جائے تو رائڈر کے تحت منظور شدہ بیمه کی رقم واجب الادا ہو جائے گی۔ قبل بیمه ہونے کی شرائط مکمل کرنے پر یہ اضافی معاہدہ اصل پالیسی کے زریمہ کے ایک گناہ، دو گناہ اور تین گناہ تک پالیسوں کے ساتھ شامل کیا جاسکتا ہے۔ اس اضافی معاہدہ میں موقع پالیسی ہولڈر کی عمر کی حد 20 سال سے لیکر 60 سال تک ہے اور مدت کی حد 10 سال سے لیکر 25 سال تک ہے۔ یہ معاہدہ 70 سال کی عمر تک تحفظ فرائماً کرتا ہے۔

5- پریمیم کی معانی Waiver of Premium-WP

اس اصنی معاہدے کے رو سے اگر بیمه دار حادثہ کی وجہ سے مکمل طور پر معدوم ہو جائے تو آئندہ واجب الادا تمام پریمیم معاف کر دیتے جاتے ہیں۔ غیر خطرناک پیشوں سے وابستہ معیاری صحت کے حال افراد کے لئے پریمیم کی شرح فی ہزار بیمه کی رقم پر مندرجہ ذیل ہے۔

موجودہ عمر	ترجح پریمیم فی ہزار روپے زریمه
24 سال یا اس سے کم	50 پیسے
24 سال سے 29 سال	75 پیسے
30 سال یا زائد	ایک روپیہ

6- پریمیم کی خاص معانی Special Waiver of Premium-SWP

اس خمنی معاہدے کی رو سے اگر بیمه دار بیماری یا حادثے کی وجہ سے مکمل طور پر معذور ہو جائے تو آئندہ اقتاط اس وقت تک معاف ہو جاتی ہیں جب تک مکمل معذوری برقرار رہے۔ پریمیم کی معافی کے لئے یہ ضروری ہے کہ معذوری چھ ماہ سے زیادہ عرصہ رہی ہو۔ یہ معاہدہ زریبہ کی بجائے پریمیم کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے۔

7۔ اداشہ پریمیم کی واپسی کا معاہدہ RPR Refund of Premium Rider-RPR

اس خمنی معاہدہ کی رو سے بیمه دار کی وفات کی صورت میں پالیسی کے تحت ادا کیے گئے تمام پریمیم (سوائے R.P.R) بھی دیگر فوائد کے ساتھ قابل واپسی ہوں گے۔ یہ معاہدہ پالیسی کے اجراء کے وقت ہی لیا جاسکتا ہے اس معاہدہ کا پریمیم زریبہ کی تحت پریمیم پر لگایا جاتا ہے۔

8۔ ناقابل انکار تجویز اسکیم Non Declinature Scheme - ND

یہ تجویز ان لوگوں کے لئے ہے جو اپنی صحت کی وجہ سے بیمه کے قابل تصور نہیں کیے جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل شرائط پر عمل کیا جائے تو ان لوگوں کو بھی ناقابل انکار تجویز کے تحت بیمه دیا جاسکتا ہے۔

% اس اسکیم کے تحت:-

- 1۔ صرف میعادی بیمه کا منصوبہ (Table 03) اور سہ ادائیگی (05) کا منصوبہ میسر ہے
- 2۔ N.D اسکیم کے تحت پالیسیوں پر کوئی خمنی معاہدے نہیں لیے جاسکتے ہیں۔
- 3۔ N.D اسکیم کے تحت ان افراد کے لئے ہے جن کی عمر 20 سال سے زائد لیکن 58 سال تک ہو (مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے)، عمر کا واضح ثبوت تجویز بیمه کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔
- 4۔ N.D پالیسیوں پر D.N کا زائد پریمیم لیا جائے گا جس کی شرح اردو ریٹ بک کے صحفہ نمبر 86 پر درج ہے
- 5۔ اگر تجویز کنندہ خطرناک پیشے یا خطرناک کھیلوں میں حصہ لیتا ہو تو معمول کے مطابق پیشے پر زائد پریمیم لیا جائے گا اگر تجویز کنندہ کا پیشہ یا زرعیہ ترقیاتی خطرناک ہے کہ تجویز بیمه عام حالات میں مسترد کر دی جائے تب D.N اسکیم کے تحت مناسب زائد پریمیم پر اسے قبول کیا جاسکتا ہے۔
- 6۔ اس منصوبے کے تحت زیادہ سے زیادہ زریبہ کی مدد 60 لاکھ ہے اس حد کے تعین کے لئے ان بیمه پالیسیوں کے زریبہ کا شمار نہیں کیا جائے گا جو عام منصوبوں کے تحت جاری کئے گئے ہوں۔
- 7۔ کل سالانہ پریمیم بمحض پروپوزل جمع کرنا ضروری ہے ورنہ اس پروپوزل پر غور نہیں کیا جائیگا۔

8۔ اس اسکم کے تحت پالیسیوں میں Back Dating ایک دن کے لئے بھی نہیں کر سکتے۔

بیمه کے پہلے سال انتقال کی صورت میں:-

زیر بیمه کی ادائیگی صرف اس صورت میں ہوگی جب موت حادثے کیز ریلی ہو جیسا کہ بیمه کی دستاویزات میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے دوسری صورت میں کوئی رقم نہیں ملے گی۔

بیمه کے دوسرے سال انتقال کی صورت میں:-

زیر بیمه کی ادائیگی صرف اس صورت میں ہوگی جب موت حادثے کیز ریلی ہو جیسا کہ بیمه کی دستاویزات میں اس کی تعریف درج ہے دوسری صورت میں صرف دوسرے سال کا پریمیم واپس ہوگا۔

تیسرا یا اس سے زائد پالیسی سال میں انتقال کی صورت میں:-

پورے زیر بیمه اور پالیسی میں جمع شدہ بونس کی ادائیگی کی جائے گی۔

9۔ اس منصوبے کے تحت 31 دنوں کی رعایتی مدت (Grace Period) پر ختنی سے عمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی پالیسی ساقط (Lapse) ہو جائے تو اس کی تجدید مندرجہ ذیل طریقوں سے کروائی جاسکتی ہے۔

10۔ ناقابل انکار بیمه کے منصوبے کے تحت لی گئی پالیسی میں زندگی کا تحفظ فوراً شروع نہیں ہو گا بلکہ یہ تحفظ 100% تک بتر ترجیح درج زیل طریق سے ممکن ہوگا۔

9۔ بیمه کے قابل رہنے کی گارنٹی GI-Guaranteed Insurability

اس غمنی معاملہ کے تحت خریدار کو آئندہ بیمه کے قابل ہونے کا ثبوت دیئے بغیر پالیسی کی تعین سالگردہ پر مزید بیمه حاصل کرنے کے حق کی ضمانت دی جاتی ہے۔

10۔ اپیتال اور جراحت کا خرچ-HS Hospital & Surgical

یہ غمنی معاملہ تاحیات پالیسی اور معیادی پالیسی کے ساتھ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیہ نمایدی پالیسی کم از کم 25,000 روپے کی ہو، اس کے لئے بیمه دار کو ڈاکٹری معائنه کرنا ضروری ہوگا۔ بیمه دار کو معاملہ میں درج شدہ بیماری یا حادثہ کی بناء پر اپیتال میں داخل ہونے کی ضرورت پڑے اور وہ اگر اسٹیٹ لائف کے کسی منظور شدہ اپیتال میں داخل ہو جائے تو بیمه دار کو مندرجہ ذیل اخراجات ادا کئے جاسکتے ہیں۔

(I) عام تجدید(Ordinary Revival)

اس طریقہ کارکے تحت پالیسی کی تجدید پر یعنیم کے بقا یا جات بعثت اخیری فیں کی ادائیگی اور ایسے طبی ثبوت مہیا کرنے پر ہوگی جو اسٹیٹ لائف ضروری سمجھتی ہو اور اس کے اخراجات کا بوجھ اسٹیٹ لائف پر نہ ہو تو ایسی صورت میں پالیسی کی جانچ پڑتا لئے سرے سے ہو گی اگر قبل تجدید ہو تو پورا تحفظ تجدید کی تاریخ سے شروع ہو سکتا ہے۔

(II) خاص تجدید(Special Revival)

اس طریقہ کارکے تحت پالیسی کی تجدید پر یعنیم کے بقا یا جات بعثت اخیری فیں کی ادائیگی ہو گی۔ اس تجدید کے بعد آئندہ دوساروں میں واجب الاداموت کے فوائد(Benefits Death) اس طرح ہوں گے جیسا کہ جز (9) میں بیان کئے گئے ہیں

- 11 - بہم کے اجراء کی تاریخ کے دو سال کی تکمیل کے بعد زرقدار رزربیئر کی مخدوشہ ولت معمول کے مطابق میسر ہو گی اور ANF کے فوائد بھی حاصل ہو گے۔
- 12 - N.D پالیسی پر بھی اس طرح سے بونس دینے جائیں گے جیسا کہ ایک عام پالیسی تحت دینے جاتے ہیں۔

باب نمبر 10

پریمیم کی شرح معلوم کرنے کا طریقہ

نماہندے کے لئے پریمیم معلوم کرنے کے طریقہ پر کامل عبور حاصل کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ذیل میں دی گئی مثالوں کے ذریعہ ہم پریمیم کا حساب لگانے کے طریقہ کارکی وضاحت کریں گے۔

1۔ تمام شرھیں بنیادی سالانہ شرح فی ہزار روپے زربہ کے حساب سے دی گئی ہیں۔ (جب تک کہ اس میں کوئی تبدیلی یا وضاحت نہ ہو)

2۔ پریمیم کی اصل واجب الادار قم کے تعین کے لئے بیہکی کل رقم کے بنیادی سالانہ پریمیم میں 2,50 روپے (دو روپیہ بچا سپیے) فی ہزار زربہ کے حساب سے پالیسی فیس (زیادہ سے زیادہ 100 روپے) شامل کرنی ہوگی۔

3۔ اگر پریمیم کی ادائیگی کا طریقہ سالانہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا پریمیم کی قطع متعین کرنے کے اوپر دئے گئے طریقہ کے مطابق حاصل کردہ سالانہ واجب الادار پریمیم کو اعلیٰ الترتیب مندرجہ ذیل اعداد سے ضرب دیجئے۔

ادائیگی کا وقفہ عدد جس سے ضرب دیا جائے

0.52	ششمہ، ہی
------	----------

0.27	سہ ماہی
------	---------

0.09	ماہانہ
------	--------

بالفاظ دیگر ششمہ، ہی پالیسیوں کا پریمیم سالانہ پریمیم سے 4 فیصد زیادہ ہوگا اور اسی طرح سہ ماہی اور ماہانہ پریمیم کی شرھیں سالانہ سے 8 فیصد زیادہ ہوں گی۔

نوٹ :-

1۔ 3 لاکھ یا اس سے زائد رقم کی پالیسیوں پر اسٹیٹ لائف 0.50 فی ہزار پریمیم میں رعایت دیتی ہے۔

2۔ قابل وصول پریمیم کی کم از کم حد 10000 روپے ہے۔ لہذا ششمہ، ہی / سہ ماہی یا ماہانہ قطع اس سے کم نہ ہو۔

3۔ نگہبان پالیسی (25/24-T) اور سیلری سیو نگ اس حد سے مستثنی ہے

واجب الادار پریمیم کے تعین کے لئے آپ کے پاس ریٹ بک اور کیلکیو لیٹر ہونا بہت ضروری ہے۔

مثال :

ایک بیمه دار کے لئے جس کی قریب ترین سالگرہ پر عمر 30 ہو، ریٹ بک میں ٹیبل نمبر 03 کے تحت 20 سال معیاد کی پالیسی کا سالانہ بنیادی پر بیم 48.42 روپے فی ہزار ہے۔ بیمه کی مختلف رقوم کے لئے پر بیم کی قسطیں حسب ذیل ہوں گی۔

(الف) بیمه کی رقم 100,000 روپے ہو تو:-

بنیادی پر بیم	4842.00	(100x48.42)	
پالیسی فیس (زیادہ سے زیادہ)	100		
سالانہ قسط	4942.00		
ششماہی قسط	2569.84	(0.52x4942.00)	
سہ ماہی	1334.34	(0.27x4942.00)	
ماہانہ قسط	444.78	(0.09x4942.00)	

(ب) بیمه کی رقم تین لاکھ روپے ہو تو:-

بنیادی پر بیم (0.50-48.42)	100.00	$= 300 \times 14,376.00 = 43,128.00$	پالیسی فیس
زیادہ سے زیادہ		$= 100.00 =$	
سالانہ قسط		$14,476.00 =$	
ششماہی قسط	7,528.00 =	$7,527.52 = (0.52 \times 1,4476.00)$	
سہ ماہی قسط	3,909.00 =	$3,908.52 = (0.27 \times 1,4476.00)$	
ماہانہ قسط	1,303.00 =	$1,302.84 = (0.09 \times 1,4476.00)$	

(ج) بیمه کی رقم دس لاکھ روپے ہو تو:

بنیادی پریم	$47,920.00 = 10,00 \times (0.50 - 48.42)$
پالیسی فیس	100.00
زیادہ سے زیادہ	$100.00 =$
سالانہ قسط	$48,020.00 =$
ششماہی قسط	$24,970.00 = 24,970.4 = (0.52 \times 48,020.00)$
سہ ماہی قسط	$12,965.00 = 12,965.4 = (0.27 \times 48,020.00)$
ماہنہ قسط	$4,322.00 = 4,321.80 = (0.09 \times 48,020.00)$

بُونس معلوم کرنے کا طریقہ

فارمولہ: زیریں فہرست شرح بُونس فی تعداد x مت

عمودی بُونس: یہ بُونس پالیسی کے پہلے سال سے لیکر پالیسی کے اختتام تک واجب ادا ہوتا ہے۔

میعادی پالیسیوں کے پریٹ ہیں تاریخ سال میں 40 روپے، چھٹے سال سے سال ہوں سال 88، اور سترہ سال سے 136 روپے فی ہزار فی سال 20 سال یا اس سے زیادہ کیلئے۔

ٹرینل بُونس: یہ بُونس پالیسی کے گیارویں سال سے مزید بیس سال تک لگایا جاتا ہے۔ میعادی پالیسیوں کے لئے ریٹ 60 روپے فی سال اور زیادہ سے زیادہ 1200 فی ہزار زریبہ تک لگائے جاسکتے ہیں۔

اسپیشل ٹرینل بُونس: اگر پالیسی پر FIB کا معادہ لگا ہو تو پالیسی کے گیاریوں سال سے مزید بیس سال تک لگایا جاسکتا ہے۔ یہ بُونس صرف اس صورت میں ملیے گا جب FIB کا معادہ پالیسی کے اختتام تک پالیسی سے منسلک رہے۔ اسکی شرح 10 روپے فی ہزار فی سال اور حد 200 روپے فی ہزار زریبہ ہے۔
مثال: ایک لاکھ زریبہ کی میعادی پالیسی میں سے کوئی (03, 04, 19, 36) 20 سال کے میعادے کے لئے ہو تو قابل واپسی رقم مندرجہ ذیل ہوگی

(الف) عمودی بُونس:

$$20,000/= \quad \text{پہلے پانچ سال کا بُونس} = 5 \times 100 \times 40 =$$

$$96,800/= \quad \text{6 سال سے 16 سال تک بُونس} = 11 \times 100 \times 88 =$$

$$54,400/= \quad \text{4 سال سے 20 سال تک بُونس} = 4 \times 100 \times 136 =$$

(ب) ٹرینل بُونس:

$$60,000/= \quad \text{11 سال سے 20 سال تک بُونس} = 10 \times 100 \times 60 =$$

اپیشل ٹرینل بنس:

$$10,000/= \quad 10 \times 100 \times 10 = 10 \times 100 \times 10 = 10,000 (= \text{FIB ہوتے})$$

$$241,200/= \quad \text{کل بنس} \quad (\text{د})$$

$$100,000/= \quad \text{زربیسہ کی واپسی}$$

$$341,200/= \quad \text{کل میچوریٹی روپے}$$

مثال: اگر یہی پالیسی 25 سال کی میعادی پالیسیوں (03, 04, 17, 18, 19, 36) کوئی ہوتے میچوریٹی کلم مدرجہ ذیل ہوگا۔

عمودی بنس:

$$20,000/= \quad \text{پہلے پانچ سال کا بنس} = 5 \times 100 \times 40 = 20,000$$

$$96,800/= \quad 6 \text{ سال سے } 16 \text{ سال تک بنس} = 11 \times 100 \times 88 = 96,800$$

$$122,400/= \quad 17 \text{ سال سے } 25 \text{ سال تک بنس} = 9 \times 100 \times 136 = 122,400$$

ٹرینل بنس:

$$90,000/= \quad 11 \text{ سال سے } 25 \text{ سال تک بنس} = 15 \times 100 \times 60 = 90,000$$

اپیشل ٹرینل بنس:

$$15,000/= \quad 10 \times 100 \times 10 = 15 \times 100 \times 10 = 15,000 (= \text{FIB ہوتے})$$

$$344,200/= \quad \text{کل بنس} \quad (\text{د})$$

$$100,000/= \quad \text{زربیسہ کی واپسی}$$

$$444,200/= \quad \text{کل میچوریٹی روپے}$$

باب نمبر 11

پروپوزل فارم اور متعلقہ شرائط

جب دفتر میں کوئی پروپوزل فارم (Proposal Form) داخل کیا جاتا ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہو، تو اندر رائٹنگ ڈیپارٹمنٹ (Underwriting Department) اس کو جانچتا ہے۔ اگر وہ بیسہ کاری کے معیار پر پورا اترے اور پہلا پر یکیم قاعدے کے مطابق وصول ہو چکا ہو پالیسی نمبر اور پہلے پر یکیم کی رسید جاری کردی جاتی ہے جو بیسہ دار کو ٹھیک ہج دی جاتی ہے۔
کے تحفظ کی ضمانت ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیسہ پالیسی تیار کر کے بیسہ دار کو ٹھیک ہج دی جاتی ہے۔
ایسے پروپوزل فارم جن کے تحت بیسہ دار کا طبعی معاہنہ لازمی ہو یادہ پرو ایڈنٹ فنڈ کے تحت داخل کئے گئے ہوں
اس شرط سے مستثنی ہیں۔

اگر کسی سوال کا جواب مناسب نہ دیا گیا ہو یا کوئی شرط پوری نہ کی گئی ہو یا مزید طبعی معاہنہ کی ضرورت ہو یا صحت یا پیشے کی مناسبت سے زائد پر یکیم درکار ہو تو اس کی اطلاع بیسہ کار کرن یا سیلز میجر کو دے دی جاتی ہے پھر شرائط کی تکمیل کے بعد
پروپوزل پر مزید غور کیا جاتا ہے۔

پروپوزل قبول کئے جانے کی صورت میں اصل دستاویزات تیار کر کے بیسہ دار کو دی جاتی ہے۔

☆ پروپوزل فارم

پروپوزل فارم مفت مہیا کئے جاتے ہیں۔ بیسہ کرانے والے حضرات کو خاص طور پر جن سوالات کے، صحیح اور درست جوابات دینے ہوتے ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔

- 1 پورا نام ملکیت ازوجیت
- 2 تاریخ پیدائش اور مقام پیدائش
- 3 قومی شناختی کارڈ نمبر
- 4 عمر کا مصدقہ ثبوت
- 5 پستہ برائے خط و کتابت اور مستقل پستہ
- 6 پیشے کی صحیح نوعیت

- 7۔ کسی پر خطر پیشہ یا مشغلو سے وابستگی یا ایسے پیشے سے وابستگی کا کوئی ارادہ۔
- 8۔ بیسہ کا منصوبہ اور اس سے متعلق دیگر دوسری تفاصیل
- 9۔ نامزدگی سے متعلق سوالات کے جوابات
- 10۔ گزشتہ پالیسیوں اپر و پوزل فارم سے متعلق سوالات
- 11۔ افراد خاندان کی تفصیل
- 12۔ ذاتی بیان برائے صحت

ان سوالات کا مکمل جوابات دینے کے بعد یہ کرانے والے افراد کو ایک اقرار نامہ پر دستخط بھیج ان لوگوں کا واضح نشانات ثبت کرنے پڑتے ہیں جس کا متن درج ذیل ہے "میں تصدیق کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا جوابات ہر لمحہ سے درست ہیں اور میں نے کسی حقیقت احوال کی پروہ پوشی نہیں کی اور نہ ہی کسی حقیقت کو چھپایا اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ میری اس تجویز اور میرے بیان کردہ حقوق کی بنیاد پر ہی میرے اور اسیٹ لائف کے مابین معاهدہ عمل میں آئے گا۔ میں مزید تصدیق کرتا ہوں کہ یہ زریمہ اور اس کی قطعیتی میں استطاعت کے مطابق ہے۔ نیز مجھے معلوم ہے کہ اس تجویز یا اس سے متعلق میرے کسی اور بیان میں تضاد پایا گیا تو یہ کام عاہدہ منسوخ ہو جائے گا اور میری جانب سے یہ کے عوض ادا شدہ اقساط بحق اسیٹ لائف ضبط ہو جائیں گی۔ میں ہر اس شفافانے، معافی اور طبیب کو جہاں کبھی میر اعلان کیا گیا ہو یا آئندہ اعلان کیا جائے، اس امر کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ عند الطلب اسیٹ لائف کو میری صحت، اعلان اور تشخیص کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔"

☆ اہم نکات ☆

یہ یک نامہ ائندے کا فرض ہے کہ تمام سوالات کے سچے، صحیح اور درست جوابات دینے جائیں اور اگر جواب وضاحت طلب یا پیچیدہ ہو تو اس کی پوری تفصیل بھی درج کی جانی چاہئے۔ یہ کے خریدار کے پیشے اور ذریعہ آمدنی کی حقیقی نوعیت ظاہر ہوئی چاہئے۔ صرف ملازمت Service یا عہدہ Designation کھو دینے سے جواب مکمل نہیں ہوتا بلکہ اس کی تفصیل جانتا ضروری ہو جاتا ہے جو پر و پوزل فارم درست طریقے سے پر کیا گیا ہو اور جوابات صحیح ہوں تو اس میں مزید کسی تفییش یا معلومات کی گنجائش نہیں رہتی اور یہی وجہ ہے کہ فیصلہ کرنے میں بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ فارم پر کرنے میں ایک تحریر پر دوبارہ لکھنا، کاشنا یا مٹانا صحیح نہیں ہے اور ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہئے۔ نامہ ائندے کو یہ بھیطمینان کر لینا چاہئے کہ جس شخص کو نامزد کیا گیا ہے، اس کا نام واضح طور پر صحیح درج ہے۔ آخر میں پر و پوزل فارم پر باقاعدہ تاریخ، دستخط اور گواہی مکمل کیجئے۔ پورا فارم انگریزی کے

بڑے حروف یا خوش خط اردو میں پر کیا جانا چاہئے۔ اور ایک ہی پین سے پر کیا جائے۔

بیمه کارکن کی پروپوزل فارم کے پر کرنے میں غلطیاں

AGENT'S MISTAKES IN FILLING PROPOSAL FORM

عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض بیمه نمائندے پروپوزل فارم کو مکمل کرتے وقت کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں یا صحیح طور پر سوالات کا جواب نہیں لکھتے جس کی وجہ سے آفس انڈر رائیٹرز اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ صحیح حقائق کو معلوم کرنے کے لئے ضروری طبعی معافوں کا اہتمام کیا جائے ایسی غیر تسلی صورت حال کو ختم کرنے کے لئے ایک چیک لسٹ تیار کی گئی ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پروپوزل فارم مکمل کرتے وقت اس چیک لسٹ کی مدد سے بہت سی غلطیوں سے بچا جاسکتا ہے۔

- 1 عمر کا غیر مصدقہ ثبوت
- 2 شناختی کارڈ مہیا نہ کرنا / شناختی کارڈ کی فوٹو کا پی صاف نہ ہونا۔
- 3 گزشتہ پالیسیوں کی تفصیل مہیا نہ کرنا۔
- 4 غلط اور نامکمل خاندانی کو ائف
- 5 وزن، قد اور چھاتی کی غلط پیمائش۔
- 6 اکثر سوالات بغیر جواب دی یہ چھوڑ دینا / نامکمل جواب دینا۔
- 7 صحت کے ذاتی بیان میں غیر تسلی بخش جوابات۔
- 8 دستخط یا انگوٹھے کے نشان کی صدقیت نہ ہونا۔
- 9 بیمه دار کا کام / پیشہ غیر واضح ہونا۔
- 10 بیمه دار کے بارے میں کارکن کی نامکمل روپورٹ۔
- 11 خواتین کے لئے اضافی سوالات کے نامکمل اور غیر تسلی بخش جوابات۔
- 12 خواتین کی آمدی کا دستاویزی ثبوت مہیا نہ کرنا۔
- 13 وارث کے تقریباً اور وارث اگر نابالغ ہے تو اس کے سرپرست کی تقریبی متعلق اندراج نہ کرنا۔

☆ پروپوزل فارم پر کرنے کی ہدایات

@nnylDesktop\FCAPIma
not found.

- 1 - پورا فارم اردو یا انگریزی کے بڑے حروف میں پر کیا جائے۔
- 2 - (پروپوزل) کے ساتھ پورا پر یہیم جمع ہونا ضروری ہے۔
- 3 - پروپوزل فارم صاف سترہ اور بے داغ ہونا چاہئے کوئی لفظ نہ تو کاٹا جائے اور نہ ہی دوبارہ قلم استعمال کیا جائے۔ اگر دوسرے فارم دستیاب نہ ہو تو کاٹے گئے لفظ / الفاظ پر پالیسی لینے والے کے پورے دستخط ہونے چاہئیں۔
- 4 - کوئی کالم خالی نہ چھوڑ جائے بلکہ صحیح اور موزوں جوابات دیئے جائیں۔
- 5 - خط و کتابت کا مکمل پیچہ تحریر کیا جائے۔
- 6 - پروپوزل فارم ایک ہی رسم الحاط اور سیاہی سے پر کرنا چاہئے۔
- 7 - شاخنی کا روکی مصدقہ کا پی کی تصدیق سیلز منیجر ایمینیجمنٹ کو کرنی چاہئے۔
- 8 - پیشہ اکار و بار کے کالم میں پالیسی لینے والے کا اصل کام جو وہ سرانجام دیتا ہے وہی درج کریں۔
- 9 - انگوٹھے کے نشان کی تصدیق سیلز منیجر کو کرنی چاہئے علاوہ ازیں ایک اردو جانے والے کو بھی بطور گواہ دستخط کرنا ضروری ہے۔
- 10 - تجویز کنندہ اور مجوزہ فرد دونوں کی سابقہ پالیسیوں (اگر ہوں) کی تفصیل فراہم کرنا۔
- 11 - پیکاش کے لئے فیٹ اور وزن کے لئے مشین ہمیشہ ساتھ رکھیں۔ اندازے سے لکھنے کی صورت میں مزید کو اف طلب کئے جاسکتے ہیں۔
- 12 - وراثت کے کالم میں علی الترتیب یہوی بچے، والدین، زینگہداشت، بہن بھائی کو وارث مقرر کیا جائے وارث اگرنا بالغ ہے تو اسکے سر پر سرت کا تقریر ضروری ہے۔
- 13 - خاندانی کو اف کا کالم اور مجوزہ فرد صحت کا ذاتی بیان بڑی اہمیت کے حامل ہیں ان میں کسی قسم کی غلط بیانی یہیہ دار اور شاء کے مفاد کے خلاف جاسکتی ہے۔
- 14 - کالم نمبر 8 کو پر کرتے وقت پر خطر مشاغل کو نہ چھپایا جائے تاکہ بعد میں کوئی واقعہ یہیہ دار کے لئے اور بالآخر کار پوریشن کے مفاد کے لئے نقصان دہ نہ ہو۔
- 15 - خفیہ پورٹ صحیح پر کرنا نہ صرف آپ کا پیشہ و رانہ بلکہ اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ وہ تمام معلومات جو آپ تجویز کنندہ

یا مجوز فرد کے بارے میں حاصل کریں رپورٹ میں تحریر کر کے کار پوریشن سے وفاداری اور مجوز فرد سے ہمدردی اور کاروباری دیانت کا ثبوت دیں۔

طبی رپورٹ کا فارم

طبی رپورٹ کا فارم پروپوزل فارم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس کے دو واضح حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ان سوالوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو سیلز نہ مناسنہ یا سیلز نیجبر بیس کے خواہشمند سے پوچھتا ہے۔ اس کو صحت کا ذاتی بیان کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ میں خواہشمند کے طبی معانے کے بعد اکٹر کی اپنی رائے درج ہوتی ہے اور یہ طبی رپورٹ کہلاتی ہے۔ صحت کا ذاتی بیان اور طبی رپورٹ میں بیس کے خواہشمند کی عادات ذاتی سوانح اور اس کی اپنی اور اس کے اہل خاندان کی طبی تاریخ ہوتی ہے ان معلومات کے حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آیا خواہشمند یا اس کے خاندان کا کوئی فرد کسی شدید بیماری یا مرض کا شکار رہا ہے یا نہیں۔ موروثی بیماریاں کیا ہیں اور کیا اسے کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟

صحت کا ذاتی بیان

صحت کے ذاتی بیان پر بیس کا خواہشمند، کار پوریشن کے ڈاکٹر کی موجودگی میں دستخط کرتا ہے اور جس پر ڈاکٹر بھی گواہ کی حیثیت سے دستخط کرتا ہے۔ اس بیان پر دستخط ہی بیس دار اور کار پوریشن کے درمیان معابدے کی نیاد ہے۔

زاند پریمیم اور بیس کی رقم میں کمی

بیس کی درخواست، درخواست دہنده کا بیان اور طبی رپورٹ ملنے پر دفتر تمام حقائق کا بغور مطالعہ کرتا ہے تاکہ بیس کی پوری مدت تک مجوز کے زندہ رہنے (طویل العمری) یا مر جانے کے امکانات کا اندازہ لگایا جاسکے۔ شرحون کی مطبوعہ جدولوں میں پریمیم کی جو شرطیں درج ہیں، ان کا اطلاق ان تمام زندگیوں پر ہوتا ہے جو کار پوریشن کے معیار کے مطابق "درجہ اول زندگیاں" ہیں۔ اگر مجوز مطلوبہ معیار کا حامل ہے تو کار پوریشن بیس کو عام شرحون پر مظور کر لیتی ہے۔ اگر مجوز کو درجہ اول معیار سے کم ترقی ارادیا جائے تو کار پوریشن خطرات کا اندازہ لگا کر طے کرتی ہے کہ آیا تجویزاً مظور کر دی جائے یا مخصوص شرائط پر مظور کر لی جائے۔ یہ مخصوص شرائط پریمیم کی عام شرح کے ساتھ زائد پریمیم (Loading)، بیس کی رقم میں کمی (Lien) یا پلان میں تبدیلی کے ساتھ پروپوزل کی مظوری ناقابل بیس زندگی جس کا کسی اسکیم کے تحت بیس نہ ہو سکتا ہونا مظور کر دی جاتی ہے۔

وہ تمام تجویز جو درج اول کی حامل نہ ہوں غیر معیاری کہلاتی ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد جو بات کے نتیجے میں تجویز غیر معیاری قرار دی جاسکتی ہے۔

(ا) افراد خاندان کے متعلق نامناسب طبی شواہد

(ب) نامناسب / انحصارگوار اخاب ذاتی سوانح تفصیلات مثلاً جسمانی عیوب یا امراض کی موجودگی۔

(ج) خطرناک پیشوں، عادات اور غیر اخلاقی سرگرمیوں سے وابستگی، غیر معیاری تجاویز کے ضمن میں حسب ذیل متبادل طریقہ کا استعمال کئے جاتے ہیں۔

1- زائد پریمیم: ریٹ بک میں رانچ عام پریمیم کے علاوہ اضافی پریمیم بھی ادا کرنا پڑتا ہے جو بیمه کی پوری مدت یا ایک خاص عرصتک واجب الادا ہوتا ہے۔ اس زائد پریمیم کو (Loading) کہتے ہیں۔

2- بیمه کی رقم میں کمی: قبل از وقت موت پر واجب الادا قوم میں کسی کو بیمه کی رقم میں کسی کو (Lien) کہا جاتا ہے، اس کی کی دو قسمیں ہیں۔ (ا) مستقل اور (ب) تدریجیاً کم ہوتی ہوئی۔

(الف) بیمه کی مستقل کمی:

اس مدت کے دروان بیمه کی رقم سے منہا کی جانے والی رقم یکساں رہتی ہے، مثال کے طور پر اگر 1,00,000 روپے کی ایک بیمه پالیسی 5 سال کے لئے نافذ 20 فیصد بیمه کی رقم میں کسی کے ساتھ جاری کی گئی ہے تو پہلے پانچ برس میں بیمه دار کی موت ہو جانے کی صورت میں کارپوریشن بیمه کی رقم سے 20% منہا کر کے بقايا رقم یعنی 80,000 روپے وارث کو ادا کر دے گی۔

(ب) بیمه کی رقم میں تدریجیاً کمی:

اس نظام میں بیمه کی رقم میں کسی ایک مقررہ شرح فیصد سے ہوتی ہے۔ اگر یہ فیصد سالانہ ہو تو 50 فیصد بیمه کی رقم میں گھٹتی ہوئی کی والی پالیسی کا مطلب یہ ہو گا کہ پہلے سال میں بیمه دار کی موت واقع ہو جائے تو بیمه کارپوریشن بیمه کی رقم کا 50% ادا کرے گا، دوسرا سال میں 10% کم ہو جائے گا یعنی بیمه کار 40 فیصد وضع کرے گا۔ تیسرا سال میں 30% منہا ہو گا۔ اور اس طرح سے 5 برس بعد بیمه کی رقم میں یہ کی ختم ہو جاتی ہے اور بیمه کی کل رقم واجب الادا ہو جاتی ہے۔

پلان یا میعادی کی تبدیلی:

بیہدہ زندگی کے بعض منصوبوں مثلاً تاحیات بیہدہ اور خاندانی آمدنی کے فوائد (FIB) والی پالیسیاں خود زائد خطرات کی حامل ہوتی ہیں۔ ایسے منصوبوں کے تحت زائد پریم یا بیہدہ کی رقم میں کمی کے ساتھ غیر معیاری زندگیاں ناقابل قبول ہوتی ہیں۔ ایسی تمام تجویزوں پر کارپوریشن مشورہ دیتی ہے۔ مثلاً خاندانی آمدنی کے فوائد (FIB) منصوبہ تبدیل کرنے اور تاحیات بیہدہ کی جگہ کارپوریشن معیادی بیہدہ یا کم مدت کے لئے بیہدہ کی تجویز پیش کر سکتی ہے۔

خطرات کی درجہ بندی

☆ انڈر رائینگ سے کیا مراد ہے؟

انڈر رائینگ کی اصطلاح تجویز یہ مکی پڑتال اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں استعمال ہوتی ہے انڈر رائینگ جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا یہ پالیسی جاری کی جاسکتی ہے یا نہیں اور اگر پالیسی جاری کی جاسکتی ہے تو کن شرائط پر؟ وسیع تر معنی میں انڈر رائینگ متوقع یہ مک داروں کے چنان اور درجہ بندی کے مفہوم کی ترجیحی کرتی ہے۔

☆ پڑتال کیوں ضروری ہے؟

بیہد زندگی کے ذریعے مالی تحفظ فراہم کرنے سے قبل انتخاب اور خطرات کی درجہ بندی اس لئے ضروری ہے کہ ایسے تمام افراد جنہوں نے یہ کے تحفظ کے لئے درخواست پیش کی ہے اور جن کے ایک حصے کو اکاف ہیں۔ ان کے تحفظ کے لئے پریکیم کی شرح انصاف کے تقاضوں کے مطابق یکساں ہو۔

آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوا کہ ایک ہی عمر کے مختلف لوگوں کے گروپ میں کچھ لوگ بستر مرگ پر زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہوتے ہیں جبکہ کچھ بیمار اور کچھ بظاہر صحت منداشت آتے ہیں۔ لیکن عملاً بیمار ہوتے ہیں۔ کچھ اپنے پیشے کے اعتبار سے یاد دیگر سرگرمیوں کی بنا پر خطرات کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، پھر ایک واضح اکثریت ان حضرات پر مشتمل ہوتی ہے جو بظاہر تدرست اور تو انا ہیں۔ درجہ بندی یا انڈر رائینگ کے ذریعے ان عوامل کا جائزہ لیا جاتا ہے، جو شرح اموات پر اثر انداز ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ ہم ماضی کے تجربہ کی بنیاد پر زیغور متوقع شرح اموات کا تخمینہ لگاتے ہیں۔ تاکہ انڈر رائیٹر اس علم کی بنیاد پر بیہد زندگی کی درخواست کے بارے میں مالی خطرات کے لحاظ سے ایسی درجہ بندی کر سکیں جو متوقع شرح اموات کے مطابق یا قریب تر ہو۔

پریکیم کی شرح کو ایک خاص سطح پر کھنک کے لئے ان یہ شدہ افراد کی شرح اموات کے گوشوارے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جو کہ انڈر رائینگ کے مرحل سے گزرنے کے بعد منتخب کئے گئے تھے۔ حاصل شدہ نتائج کی بنیاد پر انہیں اصول و قواعد کو پیش نظر کھل کر مستقبل میں بھی ویسا ہی موثر انتخاب کرتے ہیں جیسا کہ ماضی میں کیا گیا تھا۔ آفس انڈر

رائینگ کی طرح فیلڈ ائر رائینگ کا مطلب بھی سائنسیک اصولوں پر خطرات کا باریک بیسی اور مستحکم بنیاد پر دیانتدارانہ تجزیہ ہے۔ اپنے پیشہ و رانہ تجربے کی بنیاد پر ایک کامیاب بیسہ کارکن فروخت بیسہ کے ابتدائی مرحلے پر متوقع بیسہ دار کو مناسب منصوبہ کے انتخاب کے ساتھ ہی مکمل اضافی شرائط یا اضافی شرح پر یکم کے لئے بھی ذہنی طور پر تیار کر لیتا ہے۔ بیسہ کارکن سے بجا طور پر توقع کی جاتی ہے کہ وہ صرف ایسے افراد کے ہی پروپوزل فارم پر کروائے گا جن کی صحت، عادات اور اخلاقی حالت اچھی ہو اور وہ ان معلومات کے مطابق کسی ایسی بیماری میں بٹلانہ ہو جو مستقبل قریب میں جان لیوا ثابت ہو بیسہ کے قابل ہو جو اعلیٰ دیانت دار، اچھی عادات اور کردار کے مالک ہونا ضروری ہے، جن جسمانی، ذہنی اور اخلاقی طور پر صحتمد لوگوں کی زندگی غیر معمولی خطرات سے مبرأ ہوتی ہے ایسے لوگ ہی اپنے بیسہ زندگی سے متعلق تمام حقائق واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ بیسہ کارکن کا فرض ہے کہ اپنے متوقع بیسہ دار کو ایک یا ایک سے زائد ایسی پالسیوں کے بارے میں مشورہ دے جوان کی ضروریات اور ان کے وسائل کے عین مطابق ہو۔ ایسا کرنے کے لئے کارکنوں کو اسٹیٹ لائف کے پیش کردہ مختلف منصوبوں اور ائر رائینگ کے قواعد و ضوابط کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہئے۔

☆ آپ کو ایسے متوقع بیسہ دار کی تلاش ہونی چاہئے

- 1- وہ اچھی صحت کے حامل ہوں اور انہیں کسی قسم کا جسمانی نقص نہ ہوں وہ بظاہر کسی ایسی بیماری یا جسمانی نقص میں بٹلانہ ہوں جو مستقبل قریب میں جان لیوا ثابت ہو۔
- 2- وہ اپنی عام زندگی میں شاستہ ذمہ دار اور خاندان کے لئے دیانت دار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی عادات و اطوار کا مالک بھی ہو اور وہ ایسی تمام معلومات جو اس کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہوں انہیں واضح طور پر سچے بیان کر دے۔
- 3- مالی اور خاندانی حالات معیاری ہوں۔

بیسہ نہ مانندہ انتخاب کے مرافق میں ایک امتیازی کردار ادا کرتا ہے۔ وہ ہر متعلقہ سوال پوچھتا ہے اور جوابات کو واضح اور مکمل احتیاط سے ریکارڈ کرنے میں متوقع بیسہ دار کی مدد کرتا ہے۔ متوقع بیسہ دار سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ رضا کار انہ طور پر ایسی تمام معلومات فراہم کرے جو زیر یور تجویز کردہ بیسہ زندگی کے تحفظ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔

☆ غیرمعیاری بیسہ درخواستوں پر

ایک اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں 96% فیصد معیاری بیسہ درخواستیں معمول کی شرح سے منظور کریں

جانی ہیں۔ وہ بیمہ درخواستیں جو منظور نہیں کی جاسکتیں یا زائد پر یکیم یا کچھ شراکٹ و پابندیوں کے ساتھ منظور کی جاسکتی ہوں غیر معیاری تحفظ کہلاتی ہیں۔

☆ درخواست بیمہ میں دینے گئے جوابات کی اہمیت

درخواست بیمہ اور اس میں درج ذاتی بیان صحت دونوں مل کر اس معابدہ کی بنیاد بنتے ہیں جو مجوزہ (بیمہ دار) اور کار پوریشن کے درمیان طے پاتا ہے۔ اگر کوئی جواب صحیح نہ دیا جائے یا وہ غلط سمت کی طرف لے جانے والا ہو تو اس کے نتیجے میں پالیسی برقرار نہیں رہ سکتی اور اس کو كالعدم قرار دے کر پر یکیم کی رقم کو ضبط بھی کیا جاسکتا ہے۔ اگر نامکمل، یا غلط سمت پر لے جانے والے بیانات پر پالیسی جاری کی گئی ہو تو کلیم کی ادائیگی نہیں ہوگی یا ان میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمائندہ بھی اس غیر ذمہ دار نہ رہو یہ کاذمہ دار تھہر ایسا جاسکتا ہے اور اس کے خلاف تادبی کارروائی کی جاسکتی ہے۔

اس بیوہ کے دکھوں کا اندازہ کرنا مشکل نہیں جس کا کلیم اس وجہ سے رد کر دیا جائے کہ اس کے خاوند نے حقائق کو چھپاتے ہوئے بیمزندگی کی پالیسی خریدی تھی۔ آپ اسے ایسی صورت حال سے بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ مجوزہ بیمہ دار پر واضح کر دیں کہ تجویز بیمہ فارم (درخواست بیمہ) اور ذاتی بیان کے مختلف حصوں سے متعلق مکمل اور صحیح معلومات فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر مجوزہ بیمار ہو یا کچھ جسمانی نقصاں بھی رکھتا ہو تو بھی انڈر رائیٹرز اپنی پوری کوشش کریں گے کہ خصوصی شراکٹ یا اضافی شرح پر اس کی تجویز کو منظور کر لیں۔ اگر بیماری یا نقصاں اتنے زیادہ شدید ہیں کہ انہیں عام حالات میں یا خصوصی شراکٹ پر منظور کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی تجویز کو انڈر رائیٹنگ پالیسی کے حدود میں رہتے ہوئے ناقابل انکاری بیمہ (Non-Delinature) اسکیم کے تحت تحفظ فراہم کیا جاسکتا ہے۔ یہ طریقہ کار اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ حقائق کو چھپایا جائے جس سے بعد میں کلیم رد کئے جانے کا امکان پیدا ہو جائے۔

☆ بیمہ درخاستوں کی درجہ بندی کرنے کے سلسلے میں مطلوبہ ضروریات

(Total sum at Risk) کی کسی بھی حد کے لئے مندرجہ ذیل نکات زیرِ غور آئیں گے:-

- 1- بنیادی پالیسی کا زر بیمہ۔
- 2- اگر خاندانی آمدنی (ایف۔ آئی۔ بی) کا معابدہ بھی شامل کرنا مقصود ہو اور مطلوبہ خاندانی آمدنی بنیادی زر بیمہ کے ۲۵ فیصد تک ہو تو انڈر رائیٹنگ کی ضروریات کے تعین اصل پالیسی کے ساتھ فراہم کردہ معلومات شواہد کو کافی سمجھا جائے

گا۔ تاہم اگر مطلوبہ سالانہ آمدی کی رقم بنا دی زریبہ کے ۲۵ فیصد سے زائد ہو تو اندر رائیگنگ کے لئے زریبہ میں مطلوبہ خاندانی آمدی کی Commuted Value کا بطور اضافی رقم شمار ہو گا۔

3۔ میقاتی بیہد (TIR) کے تحت اور ایاضانت شدہ بیہد (G.I) کے معاملے کے تحت رقم کو اصل نتیجہ کے ساتھ بطور اضافی شمار کیا جائے گا۔

4۔ اس مقصود کے لئے حادثات کی ضمنی معاملہ جات شامل نہیں کئے جائیں گے۔

5۔ گزشتہ تین سالوں میں جاری کردہ پالیسیوں کا مجموعی زریبہ شامل بیہد (TIR) کو بھی کل زریبہ (Total Risk) میں شمار کیا جائے گا۔

نوٹ:

مندرجہ بالا طریقہ کا ربطی معاملے کی حد کا تعین کرنے کے لئے بھی اختیار کیا جائے گا۔ تاہم کسی بھی تجویز (Proposal) کے سلسلے میں اضافی طبی شرائط کا تعین آفس انڈر رائیٹر ہی پروپوزل کی مخصوص نوعیت کے مطابق کرے گا۔

☆ عمر کا ثبوت

عمر کا ثبوت پیش کیا جانا اتنی اہم ضرورت ہے کہ اس کے بغیر اسٹیٹ لاکف کی طرف سے جاری کردہ کسی پالیسی کے تحت کوئی حق یاد ہوئی قابل ادائیگی نہ ہو گا۔ موجودہ طریقہ کار کے مطابق کسی درخواست بیہد کو اس وقت تک زیر غور نہیں لایا جائے گا جب تک اس کے ساتھ عمر کا ثبوت بصورت مصدقہ سرٹیفیکٹ مسلک نہ کیا جائے۔ اگر عمر پہلے حاصل کردہ کسی پالیسی میں تسلیم کی جا چکی ہے تو صرف پالیسی کا حوالہ دے دینا ہی کافی ہے۔ بہر حال پالیسی کے تحت عمر کا تسلیم کیا جانا اتنی اہم ضرورت ہے کہ اس کے بغیر مندرجہ ذیل دستاویزات (بلحاظ ترجیح) بطور ثبوت عمر تارنخ پیدائش پیش کی جاسکتی ہے۔

1۔ حکومت پاکستان کا جاری کردہ قومی شناختی کارڈ۔

2۔ میونپل کمیٹی / کارپوریشن کے پیدائش کے اندر اج کا رجسٹری کسی دیگر پیک تارنخ پیدائش کا سرٹیفیکٹ۔

3۔ منظور شدہ تعلیمی ادارے اسکول اکالج ایونورسٹی کے ریکارڈ سے تعلیمی سرٹیفیکٹ، ڈگری اسکول چھوڑنے کا سرٹیفیکٹ وغیرہ (اگر ان سرٹیفیکٹس میں تارنخ پیدائش کا اندران ہو۔)

3۔ گورنمنٹ ریکارڈ سے اقتباس بصورت سروں بک، سول لسٹ وغیرہ یا جوانہ نیٹ اسٹاک کمپنیز، خود مختار ادارے، بلدیات کے ادارے یا نیم حکومتی اداروں کے سروں ریکارڈ۔

4۔ کم از کم ایک سال قبل جاری کیا گیا پاسپورٹ یا اس کا اقتباس جس میں عمر اور تارنخ پیدائش درج ہو یا اقتباس

کسی درجہ اول کے سرکاری آفیسر یا اسٹیٹ لائف کے کسی با اختیار آفیسر کا تصدیق شدہ ہو۔

5۔ با اختیار حکومتی ادارے کا جاری کردہ ڈو میسائل سرٹیفیکٹ یا شہریت کا سرٹیفیکٹ جسمیں تاریخ پیدائش درج ہو۔

6۔ پروپوزل فارم کی تاریخ سے پہلے کا جاری کردہ قومی شناختی کارڈ اگر متوقع یہ مدار تعلیم یافتہ ہو یا کسی معروف ادارے کا ملازم ہو تو آفس انڈر رائیٹر کسی دوسرے قابل قول ثبوت عمر کے لئے اصرار کر سکتا ہے۔ خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ شناختی کارڈ پر پروپوزل فارم پر کرنے کے وقت ایک سال یا اس سے قبل جاری کیا ہو۔ پرانی پالیسیوں کی صورت میں اگر شناختی کارڈ کی تاریخ اجراء تجویز یہ مدار (پروپوزل فارم) یا پالیسی جاری کرنے کی تاریخ کے بعد کی ہو تو دوسرا معتبر ثبوت عمر کی تصدیق کے لئے طلب کیا جاسکتا ہے۔

نوٹس

(ا) عمر کے ثبوت میں اصل دستاویزات پیش کی جائیں گی، تاہم وہ معائنه کے بعد واپس کر دی جائیں گی۔ اگر فوٹو کاپی یا نقل داخل کرنا مقصود ہو تو انہیں کسی درجہ اول کے سرکاری آفیسر یا اسٹیٹ لائف کے افسر مجاز سے تصدیق کروانی چاہئے۔

(ب) ایسی دستاویز مثلاً پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ڈو میسائل سرٹیفیکٹ وغیرہ جو تجویز یہ مدار (پروپوزل) کی تاریخ سے ایک سال سے کم عرصہ قبل جاری کئے گئے ہوں یا اس کے بعد کی تاریخ میں جاری کئے گئے ہوں وہ انڈر رائیٹر کی صوابید پر ہی منظور کئے جاسکیں گے۔

☆ عمر میں فرق ☆

اگر عمر تجویز یہ مدار (پروپوزل) کی تاریخ میں دی گئی عمر سے مختلف ہو تو ایسی صورت میں مندرجہ ذیل طریقہ کارپرعل کیا جائے گا۔

(ا) اگر فراہم کردہ صورت کے نتیجے میں یہ مدار کی عمر تاریخ اجراء یہ کسی منصوبے یا اسکیم کے لئے انتہائی حد سے زیادہ ثابت ہو جائے تو پالیسی کا عدم قرار دی جائے گی اور ادا شدہ اقساط بحق اسٹیٹ لائف ضبط ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر کوئی پالیسی پروپوزل فارم میں ظاہر کردہ ۲۳ سال عمر کی بنیاد پر بلاطی معائنه جاری کی گئی ہو اور دستاویزات اور شواہد کی بنیاد پر اس کی عمر ۱۵ سال ثابت ہو جائے۔

(ب) تو زیر یہ اور اس سے غسلک تمام فوائد کم کر دیے جائیں گے۔ اگر تجویز یہ مدار (پروپوزل) کی گئی ہو، تاہم تصدیق شدہ عمر پر یہ کے قابل ہونے کی تسلی بخش شہادت مہیا کرانے اور پر یکیم کے بقا یا جات مع تاخیری فیں ادا کرنے پر یہ کی اصل رقم بحال کی جائے گی۔

(ن) عمر میں کسی کی صرف اس صورت میں اجازت ہوگی جب فہرست میں نمبر 1 سے لے کر 5 تک درج کردہ دستاویزات اور پروپوزل فارم میں حلقویہ طور پر بیان کردہ عمر اور ثبوت کے طور پر پیش کی گئی دستاویزات میں فرق کی وجہات تسلی بخش ہوں۔ اس صورت میں پریکیم کی زائد قسم بغیر کسی منافع کے واپس کر دی جائے گی۔

طبی شرائط و ضروریات

جب کسی زربیمہ غیر طبی معائنه ایکیم کی حدود سے تجاوز کر جائے یا کسی اور وجہ سے خصوصی طور پر طبی معائنه ضروری قرار دیا جائے تو مکمل طبی معائنه کی صورت میں کسی مجاز یا با اختیار ڈاکٹر سے مقررہ فارم کمکل کروائی جائے۔ مزید تفصیلات کے لئے مقررہ منظور شدہ ڈاکٹر کی فہرست ملا خطہ فرمائیے۔ خاندانی اور پیشہ و رانہ کوائف یا غیر معیاری زندگی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جسمانی نقص یا عیب بھی موجود ہو تو ایسی صورتحال میں لازمی طبی معائنه کروایا جائے، چاہے درخواست دہندہ بلا طبی معائنه ایکیم کی حد میں ہی کیوں نہ آتا ہو۔ غیر طبی معائنه کی حد بندی کے لئے اٹیٹ لائف کی جاری کردہ انڈر رائینگ ریکوائرمنٹ کی تفصیل ریٹ بک میں ملا خطہ فرمائیے۔

☆ طبی رپورٹ کی قابل قبول مدت

(ا) مکمل طبی معائنه کی رپورٹ اور معائنه پیشاب کی رپورٹ چھ ماہ تک قابل قبول ہوں گی۔ جبکہ تجویز بیمہ معیاری شرح پر ہو۔

(ب) ایکسرے، سینہ، دل کی حرکت کی رپورٹ اور معائنه مطالعہ خون کی رپورٹ ایک سال تک قابل قبول ہوں گی۔ تا ہم طبی لحاظ سے غیر تسلی بخش اور مشکوک کیس کے متعلق آفس انڈر رائیٹر اپنا حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ ان صورتوں میں دوبارہ معائنه کی ہدایت کرے یا اپنی صواب دید بیمہ کے مطابق جیسا مناسب سمجھے فصلہ کرے۔

☆ خط منظوری بیمہ کی قابل قبول مدت

عام طور پر بیمہ کی منظوری کا خط اپنے اجراء کے دن سے 60 دن تک کارآمد ہے بصورت دیگر بیمہ کی منظوری کے خط پر درج شدہ شرائط کے مطابق عمل ہوگا۔ پر اویڈنٹ فنڈ کے پروپوزل فارم میں یہ مدت 90 دن کی ہوگی۔ بشرطیکہ گزشتہ طبی معائنه یا حلف نامہ وذاتی بیان کے بعد سے کل ادا ٹینکی اور دیگر شرائط بیمہ کی تکمیل سے متعلق درخواست کنندہ کے شخصی خاندان اور پیشہ و رانہ کوائف میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو جو اس درخواست بیمہ کو منتاثر کرے مندرجہ ذیل صورتوں میں مقررہ فارم پر اچھی صحت سے متعلق بیان داخل کرنا ہوگا۔

(الف) نقط (یا اس کی بقیر قم) منظوری کا خط جاری کئے جانے کے 60 دن بعد کی گئی ہو بشرطیہ صحت کے متعلق ذاتی بیان کو چھ ماہ نہ گز رے ہوں۔

(ب) پروپوزل کی منظوری کے لئے اگر (Requirements) لگائی گئی ہوں اور یہ خط کی تاریخ کے 60 دن بعد، لیکن پروپوزل اصحت کے متعلق ذاتی بیان کے چھ ماہ کے اندر فراہم کی گئی ہو۔

☆ بیمه اطفال

- 1 چھ 6 ماہ سے 16 سال کی عمر تک کے تمام بچوں کا بیمه "بیمه اطفال" کے رمزے میں آتا ہے۔
- 2 بچے کا طبی معاہدہ ضروری ہے۔
- 3 صرف معیادی بیمه پالیسیاں زیادہ سے زیادہ 25 سال کی مدت کے لئے جاری کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے بشرطیہ ان کا زر بیمه ضرورت اور آمد نی کے مطابق ہو۔ 2 لاکھ روپے سے زائد زر بیمه یا طویل مدت کے لئے یادوں سے منصوبہ جات کے تحت بچوں کی پالیسی جاری کرنے کے لئے انفرادی کوائز (Merits) کی بنیاد پر غور کیا جاسکتا ہے۔

مثال:

- (ا) بچے کنمیکس ادا کرتا ہو یا اس کے نام کوئی جائیداد ہو۔
- (ب) خاندان کے ہر فرد کے لئے بیمه کا ایک متوازن پروگرام ہو۔ مثلا والدین کی زندگی پر دو گناہ زر بیمه کی پالیسیاں موجود ہوں۔ تمام بھائی بہن مساوی رقم کے لئے بیمه شدہ ہوں اور کسی ایک بچے کی زندگی پر بیس کی غیر معمولی رقم کے بیمه کی درخواست نہ کی گئی ہو۔
- 4۔ ضمنی معاهدہ میں حادثاتی موت (ADB) کا معہدہ اس صورت میں بچے کی زندگی پر جاری کیا جاسکتا ہے جب بچے کی عمر 5 سال یا اس سے زائد ہو۔ (GI) دس سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچے کی پالیسی کے ساتھ شامل کیا جاسکتا ہے۔
- 5۔ ہر درخواست بیمه کے ساتھ بچے کی عمر کا ثبوت پیش کرنا لازمی ہے۔

☆ خواتین کے لئے بیمه کے قواعد

درخواست بیمه پر فیصلوں کی خاطر خواتین کو چار درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

درجہ "اے" درجہ "بی" درجہ "سی" درجہ "ڈی"

☆ خواتین کے بیٹے

☆ درجہ "A"

اس میں وہ خواتین شامل ہیں جو باقاعدہ طور پر کسی بھی سرکاری ادارے میں ملازم ہوں اور مخصوص مقررہ آمدنی حاصل کر رہی ہوں۔ ایسی خواتین اپنی مالی حیثیت کے مطابق کوئی بھی پالیسی بمعنی معاهدہ جات اور کسی بھی مالیت کی پالیسی حاصل کر سکتی ہیں۔ تاہم تعلیم اور روزگار کا ثبوت لازمی دینا ہوگا۔ ایسی تمام خواتین کوئی بھی حصول کے لئے مردوں کے مساوی سمجھا جائیگا۔

☆ درجہ "B"

ایسی تمام خواتین جنکا ذریعہ آمدنی:

(ا) سرمایکاری سے حاصل ہونیوالی آمدنی ہو۔

(ب) کسی کاروبار میں غیر حاضر شراکت کا رکھی حیثیت سے ہونیوالی آمدنی ہو۔

(پ) کسی بھی ادارے میں باقاعدہ ملازمت ہو۔

ایسی خواتین اپنی مالی حیثیت کے مطابق کوئی بھی پالیسی بمعنی معاهدہ جات اور کسی بھی مالیت کی پالیسی حاصل کر سکتی ہیں۔ ایسی تمام خواتین کو 10 لاکھ زریبہ تک کے لئے مرد حضرات کے مساوی سمجھا جائے گا 10 لاکھ سے زائد مالیت کی پالیسی لینے پر مکمل طبی رپورٹ (FMR) اور دیگر ٹیکسٹ وغیرہ لاگو ہونگے۔ اور تعلیم اور روزگار کا ثبوت لازمی دینا ہوگا۔

☆ درجہ "C"

(ا) اس درجہ میں وہ خواتین شامل ہیں جنکی کوئی ذاتی آمدنی نہ ہو۔

(ب) وہ خواتین جنکی کوئی مسلسل باقاعدہ آمدنی نہ ہو۔ مثلاً سلامی، کڑھائی، ٹیوشن سینٹر، یوٹی پارک وغیرہ۔

(ج) کار پریش کے موجودہ خواتین کے تحت درجہ "C" کی خواتین کو 10 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی بیس پالیسی جاری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی بخوبی معہدہ پالیسی کے ساتھ لگایا جائے گا۔ ایسی پالیسیوں کیلئے مکمل طبی معائض (FMR) اور تقدیق میں بھریا ایسا بھر کی جانب سے رپورٹ۔

☆ "D" درجہ

وہ تمام خواتین جو درجہ C to A میں نہیں آتیں وہ درجہ D میں آتی ہیں اور انکو کوئی پالیسی جاری نہیں کی جائے گی۔

ناقابل انکار بیمه اسکیم: (N.D) پالیسیاں برائے خواتین

درجہ A, B, C اور D میں آنیوالی خواتین کو N.D اسکیم کے تحت پالیسی دی جا سکتی ہے۔

عمر کی حد میں رعایت

معیاری صحت کی حامل خواتین کے لئے عمر کی حد میں بنیادی پریمیم کے تعین کے لئے 2 سال کی رعایت دی جائے گی۔

خواتین کے بیمه کے لئے عام قواعد

1۔ ناخواندہ خواتین کے لئے طبی معائنه لازمی ہے۔ اور انکی تجویز بیمه پر انفرادی طور پر فیصلہ کیا جائیگا۔

2۔ حاملہ خواتین (بشرطیکہ الیت) کی تجویز بیمه پر غور کیا جاسکتا ہے۔ لیکن بیمه کی منظوری کی صورت میں حمل سے متعلق خطرات کا تحفظ ایک سال کے لئے نہیں ہوگا اور بیمه کے پہلے سال میں حمل سے متعلق خطرات کی وجہ سے موت کی صورت میں بیمه کے فوائد صرف پریمیم کی رقم کی واپسی کی حد تک محدود ہوں گے۔ حاملہ خواتین کے لئے میڈیکل کرانا ضروری ہے۔

3۔ مرد ڈاکٹر خواتین کا طبی معائنه صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں جبکہ مجوزہ زر بیمه 50,000 روپے (درجہ "A" کی صورت میں مذکورہ خاتون خود اپنی رضامندی سے مرد ڈاکٹر سے تفصیلی معائنه کے لئے تیار ہو۔ مقررہ رقم کی حد سے زیادہ تمام تجویز کی صورت میں طبی معائنه کم از کم ایک مجاز لیڈی ڈاکٹر ضرور کرے گی۔

4۔ خواتین کی ہر تجویز بیمه کے ساتھ تعلیم اور روزگار کا ثبوت مہیا کرنا ضروری ہے۔

نوٹ:

درجہ بندی کے مندرجہ بالا اصول و قواعد کے علاوہ انڈر رائینگ کا شعبہ کوئی بھی ایسا دستاویزی ثبوت طلب کر سکتا ہے جو اس کے نزدیک اس درجہ بندی میں مددگار ثابت ہو سکے۔

پالیسی کے تحت فراہم شدہ حقوق اور شرائط

بیمه کارکن کے لئے پالیسی کی شرائط سے واقفیت ضروری ہے۔ کارپوریشن نے بیمہ داروں کی سہولت کے لئے پالیسی کی دستاویز کو بڑی حد تک آسان بنادیا ہے۔ بیمہ پالیسی میں درج شرائط و مراجعات بہانہ نقل کی جا رہی ہیں۔

1- ضمانات

لائف انشورنس (نیشنل آئیش) آرڈر 1972 کی دفعہ 35 کے تحت، مرکزی حکومت، پالیسی میں درج شدہ بینے کی رقم، بشمول (بونس اگر ہوتو) کی نقد ادا یگی کی ضمانت دیتی ہے۔

2- پریکیم کی ادائیگی

پریکیم سالانہ اور پیشگی واجب الادا ہوتے ہیں۔ ششماہی، سہ ماہی اور ماہانہ پریکیم کی ادائیگی کو سالانہ پریکیم کی اقساط میں اس طرح سمجھا جائے گا کہ اگر بیمہ دار کا انتقال ہو جائے تو اس سال کی غیر ادا شدہ اقساط (اگر ہوتو) اسٹیٹ لائف کے ذمے واجب الادار قسم سے منہا کر لی جائے گی۔ پریکیم کی رسید صرف اسی صورت میں درست تسلیم کی جائے گی جب وہ اسٹیٹ لائف کے مقررہ فارم پر افسران مجاز کے سختخطوں سے جاری کی گئی ہو۔ اسٹیٹ لائف میں پریکیم کی وصولی کی اصل تاریخ کو، پریکیم کی ادائیگی کی تاریخ تسلیم کیا جائے گا۔

3- رعایتی مدت

بیمہ دار پریکیم کی قطع واجب الادا ہونے کی تاریخ سے 31 دن کی رعایتی مدت کے اندر اندر پریکیم ادا کر سکتا ہے۔ پریکیم کی قطع وصول ہونے سے پہلے اگر رعایتی مدت کے دوران بیمہ دار کی موت واقع ہو جائے تو وہ واجب الادا پریکیم ادا شدہ تصور کیا جائے گا لیکن بیمہ دار کے ذمے جو بھی رقم واجب ہوگی، رقم بیمہ میں سے منہا کر لی جائیگی۔

اگر رعایتی مدت اسٹیٹ لائف کو پریکیم وصول ہونے سے قبل ختم ہو جائے اور پالیسی کی خود کار (Automatic Non-forfeiture) کے تحت پالیسی کو جاری رہنے کی سہولت ختم ہو جائے تو پالیسی کا عدم ہو جائے گی۔ رعایتی مدت کے اختتام تک پریکیم ادا نہ ہونے کی صورت میں پالیسی اپنی ادائیگی کی اصل تاریخ سے تصور کی جائے

گی۔ کا لعدم پالیسی کے تحت اسٹیٹ لائف پر کوئی مالی ادائیگی کی ذمہ داری عدم کرنے ہوتی۔

4۔ کا لعدم پالیسیوں کی تجدید

اسٹیٹ لائف کا لعدم پالیسی کی تجدید پر غور کر سکتی ہے بشرطیکہ بیمه دار اپنے خرچ پر قابل بیمه ہونے کا ثبوت فراہم کرے۔ اس بات کا انحصار کہ اسٹیٹ لائف بیمه دار سے اچھی صحت کا بیان قبول کرے یا طبی معافی کی رپورٹ طلب کرے، پالیسی کے کا لعدم ہونے کی تاریخ سے تجدید کی درخواست تک کی مدت پر ہوگا لیکن اسٹیٹ لائف ضرورت محسوس کرنے پر مزید رپورٹیں بھی طلب کر سکتی ہے۔ مزید برآں کا لعدم پالیسی کی تجدید پر غور کرنے سے پہلے ضروری ہو گا کہ پریمیم کے تمام بقایا جات بمع لیٹ فیس، جس کی شرح اسٹیٹ لائف وقاً فتاً معین کرے گی اسٹیٹ لائف کو ادا کر دیے جائیں، اسٹیٹ لائف کا لعدم پالیسی کی تجدید کرنے، اسے رد کرنے یا ملتوی کرنے یا ترمیم شدہ شرائط کے تحت تجدید کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔

5۔ ادا شدہ پالیسیاں

بیمه کی تحریری درخواست پر اسٹیٹ لائف پالیسی کو ادا شدہ پالیسی (Paid up Policies) میں بدل دے گی بشرطیکہ اس پالیسی کے کم از کم پورے دوسارے کے پریمیم ادا کر دیے گئے ہوں اور کوئی پریمیم باقی نہ ہو۔ ادا شدہ پالیسی کے تحت بیمه دار کو آئندہ کوئی پریمیم نہیں دینا ہوگا لیکن زر بیمه میں کمی ہو جائے گی۔ بیمه دار کی درخواست پر اسٹیٹ لائف اسے بیسے کی تخفیف شدہ مالیت بتادے گی۔

ادا شدہ بیسے کی رقم کا تعین کرتے ہوئے پالیسی کے ساتھ اس کے بونس بھی (اگر ہوں تو) شامل کئے جائیں گے پالیسی کو "ادا شدہ" قرار دیے جانے کے بعد اس پر مزید کوئی بونس نہیں دیا جائے گا۔ اگر ادا شدہ پالیسی کی رقم 100 روپے سے کم ہو تو ایسی پالیسی بحق اسٹیٹ لائف ضبط نصوص کیا جائے گا۔

6۔ نقد مالیت

کم از کم دو برس کے مکمل پریمیم کی ادائیگی کے بعد پالیسی نقد مالیت (Cash Value) اختیار کر لے گی۔ اسٹیٹ لائف بیمه دار کی درخواست پر اس کو پالیسی کی نقد مالیت سے آگاہ کرے گا۔ اس بات کی ممانعت دی جاتی ہے کہ پالیسی کی نقد مالیت ادا شدہ پریمیم کی مجموعی رقم (Aggregate Premium) کے 30 فیصد سے کم نہیں ہو گی عام طور پر نقد مالیت 30 فیصد سے کہیں زائد ہوتی ہے۔

مجموعی پریمیم سے مندرجہ ذیل کے سواتھاں پریمیم مراد ہیں جو اس پالیسی کے تحت ادا کئے گئے ہوں۔

(ا) پہلے سال کا پریمیم

(ب) کم تر معیار صحت یا خطرناک پیشوں ام شاغل کی صورت میں وصول کیا جانے والا زائد پریمیم

(ج) ضمنی معاملہ اور فیملی آنکم بیفیٹ (FIB) کے پریمیم

بیمہ دار تحریری درخواست دے کر پالیسی سے دستبردار (Surrender) ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اسٹیٹ لائف اس پالیسی کی خالص نقد قیمت Net Cash Value (اگر ہوتا) ادا کر دے گی۔ "خالص نقد قیمت" کی اصطلاح (اس پالیسی کی شرائط میں جہاں کہیں بھی مذکور ہو) سے مراد پالیسی کی وہ بقیہ رقم ہوگی جو بیمہ دار پر واجب الادا قرضوں اور پالیسی کی خود کا رادائیگی کے لئے اسٹیٹ لائف کی جانب سے دیجئے گئے مزید قرضوں اور ان تمام واجب الادا نفع سمیت کل رقم کی منہائی کے بعد پچتی ہے۔

7- قرض

بیمہ دار کی درخواست پر اسٹیٹ لائف اس پالیسی کی خالص نقد مالیت کے عوض قرض دے گی۔ قرض کی رقم مذکورہ خالص نقد مالیت (Net Cash Value) 80% سے زیادہ ہوگی۔ نفع کی شرح اور دیگر شرائط و ضوابط اسٹیٹ لائف قرض دینے وقت متعین کرے گی۔

8- پریمیم کی خود کا رادائیگی

اگر پالیسی نے نقد قیمت اختیار کر لی ہے تو رعایتی مدت کے دوران پریمیم ادا نہ ہونے کی صورت میں پالیسی کا عدم قرار نہیں پاتی بلکہ درخواست بیمہ میں تجویز کردہ دو طریقوں: (الف) خود کا رادا شدہ پالیسی (ب) خود کا رپریمیم قرض میں سے کسی ایک انتخاب کے مطابق رعایت کی اہل تصور کی جاتی ہے۔ اسٹیٹ لائف کو تحریری طور پر اطلاع دے کر اس انتخابی رعایت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ انتخاب مستقل نہیں ہے اس کو بعد میں بدلا بھی جا سکتا ہے۔ اگر بیمہ دار خود کوئی انتخاب نہیں کرتا، تو اس کی پالیسی پر خود کا رپریمیم قرض کا اطلاق کیا جائے گا۔

"خود کا رپریمیم قرض" کے تحت مہیا کردہ سہولت

جب تک پالیسی کی خالص نقد قیمت رعایتی مدت کے بعد بھی غیر ادا شدہ پریمیم سے زیادہ اس کے مساوی رہے گی، اسٹیٹ لائف اس پالیسی کو اس کے کمبل فوائد کے ساتھ جاری رکھے گی اور پالیسی کی خالص نقد قیمت کے عوض ایک "خود

کار پر یکیم قرض " کے ذریعے اس پر یکیم کو ادا شدہ تسلیم کرے گی۔ جب پالیسی کی خالص نقد قیمت رعایتی مدت کے بعد بھی ادا نہ ہونے والے پر یکیم سے کم ہو جائے گی تو پالیسی کو مزید اس عرصے تک جتنا کہ ممکن ہو گا، نافذ رکھا جائے گا۔ مذکورہ مدت ختم ہونے پر پالیسی از خود ضبط اور تمام مراعات سے محروم ہو جائے گی۔ خود کار پر یکیم قرضوں پر لیٹ فیس واجب الادا ہو گی جس کی شرح اسٹیٹ لائف و قما فوت متعین کرے گی۔ جب تک اس پالیسی کے عوض کوئی خود کار پر یکیم قرض مع لیٹ فیس واجب الادار ہے گا اسٹیٹ لائف ہر ادائیگی سے پہلے اس قرض کی رقم مع لیٹ فیس ادا کی جانے والی رقم سے منہا کرے گی۔

خود کار ادا شدہ پالیسی کی رعایت

مذکورہ بالاطریقے کے مطابق پہلے ایک سال تک پالیسی خود کار پر یکیم قرض کے تحت کامل ایک سال تک جاری رکھی جائے گی۔ اگر مذکورہ ایک سال کے اختتام پر خالص نقد قیمت ختم ہو جانے کے سبب پالیسی ضبط نہیں کی گئی تو یہ از خود ادا شدہ پالیسی میں بدل جائے گی۔ ادا شدہ بیمه کی رقم کا اس طرح حساب لگایا جائے گا تاکہ پالیسی پر اسٹیٹ لائف کے تمام واجبات ادا ہو سکیں۔ اگر یہ ادا شدہ رقم 100 روپے سے کم پالیسی ادا شدہ صورت نہیں کی جائے گی۔ بلکہ ایک برس کی مذکورہ مدت کے اختتام پر ضبط قصور کی جائے گی۔

9۔ عمر کا ثبوت

پالیسی کے تحت رقم کی ادائیگی سے قبل بیمہ دار کی عمر کا صحیح اور تسلی بخش ثبوت کی بنیاد پر اندر ارج ضروری ہے۔ اگر بیمہ دار کی عمر اس پالیسی کے لئے پر کردہ پروپوزل فارم میں درج عمر سے مختلف ہو گی تو اسٹیٹ لائف اپنی صواب دید پر اس پالیسی کے تحت پر یکیم یا اس کی رقم کی ادائیگی میں رو بدل کر دے گی۔

تاہم اگر پالیسی کی تاریخ اجراء پر بیمہ دار کی عمر اس پالیسی کی تجویز میں مذکورہ بیمے کے پلان کے تحت اسٹیٹ لائف کی مقررہ زیادہ سے زیادہ عمر کی حد سے زائد ہو گی تو یہ پالیسی کا عدم ہو جائے گی۔

10۔ خود کشی

اگر پالیسی پر دستخط ہونے کے بعد نیڑہ ماہ کے اندر بیمہ دار خود کشی کر لے تو اسٹیٹ لائف صرف فی الواقع ادا کردہ وہ پر یکیم ہی واپس کرے گی۔

11۔ کرنی اور مقام ادا نیکی

ائیٹ لائف کے ذمے واجب الادا تمام رقوم پاکستانی کرنی میں، اس کے صدر دفتر افڑا جراء سے ادا کی جائیں گی۔

12۔ تفویض (Nomination) کا نوٹس یانا مزدگی (Assignment)

تفویض کا نوٹس یانا مزدگی اس پالیسی میں مذکور دفتر اجراء میں رجسٹریشن کے لئے پیش کرنا لازم ہے۔ تفویض یا نامزدگی کی رجسٹری میں ائیٹ لائف قانونی اثیری معنی کے لئے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتی۔

13۔ ضمنی معاملہ

پالیسیوں کے ساتھ شامل ضمنی معاملہوں کی شرائط مراعات چھپی ہوئی صورت میں بنیادی پالیسی کے ساتھ منسلک کئے جاتے ہیں۔ ضمنی کئی معاملہوں کے پریکیم بھی ان ہی تاریخوں کو واجب الادا ہوں گے جو اس پالیسی کے پریکیم کی ہیں۔

14۔ غیر تنازعہ پالیسی (Incontestability)

پالیسی کے اجراء کے دو سال بعد یہ کے تمام بیانات کے اعتبار سے پالیسی غیر تنازعہ ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ جان بوجھ کر دھوکہ دہی یا غلط بیانی کی گئی ہو یا پالیسی کی کسی شرط کی خلاف ورزی کی گئی ہو۔

15۔ سفر، رہائش اور پیشہ

یہ پالیسی سفر، رہائش اور پیشہ کے اعتبار سے تمام پابندیوں سے مبراء ہے۔

16۔ یادداہی

ائیٹ لائف پریکیم نوٹس، پالیسی کا عدم ہونے کی اطلاع اور اسی قسم کی دوسری یادداہیاں کا رو باری رکھ رکھا ہو کی خاطر جاری کرتی ہے لیکن وہ اس کے لئے پابند نہیں ہے۔ مطلوبہ معلومات کا حصول بیہداروں کی اپنی ذمہ داری ہے۔

نوٹ:

اگر پہلی قسط کی ادائیگی بذریعہ چیک کی گئی ہو تو اسیٹ لائف صرف اسی وقت سے ذمہ داری قبول کرے گی جب چیک پاس ہو جائے گا۔ اگر چیک پاس ہوئے بغیر واپس آگیا تو پالیسی شروع ہی سے کا عدم تجھی جائیگی۔

17۔ آزادانہ مطالعہ کی مدت Free Look Period

پالیسی ہولڈر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پالیسی نمبر جاری ہونے کے بعد 14 دن کے اندر اپنی پالیسی کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اس کی رقم بغیر کسی کٹوتی کے چاہئے اس کا میڈیکل معائضہ بھی ہوا ہو، واپس کردی جائے گی۔ کوئی دوسرا شخص پالیسی ہولڈر کو اس کام کے لئے مجبور نہیں کرے گا۔

نامزدگی اور تفویض

کوئی بیمه دار ہرگز یہ پسند نہیں کرے گا کہ خدا نخواستہ اس کے انتقال کی صورت میں ٹکیز کی ادائیگی میں جانشینی کے سڑپیکٹ یا دوسری قانونی دشواریوں کی وجہ سے تاخیر ہو جائے۔ ٹکیز کی فوری ادائیگی کے پالیسی کے تحت وارث ضرور نامزد کیا جانا چاہئے۔

پالیسی تفویض کیتے جانے پر نامزدگی ختم ہو جاتی ہے اس لئے تفویض کے اختتام یعنی پالیسی کے تحت بیمه دار کے حقوق بحال ہونے کے بعد دوبارہ نامزدگی کی ضرورت پیش آتی ہے۔

☆ نامزدگی (Nomination)

انشورنس ایکٹ کی دفعہ 39 کے تحت بیمه دار ایک شخص یا کئی اشخاص کو بطور وارث نامزد کر سکتا ہے تاکہ اس کی وفات کی صورت میں پالیسی کی رقم ان کو ادا کر دی جائے۔ یہ نامزدگی بیمه خریدتے وقت یا پالیسی کی مدت کے دوران پہلے کسی بھی وقت کی جاسکتی ہے۔ تمام نامزدگیوں کے موثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ پالیسی کے متن میں مذکور ہوں، یا بعد میں اضافی تحریر(Endorsement) کی صورت میں شامل کئے گئے ہوں۔ تمام نامزدگیوں یا ان کی تثنیخ کے لئے کار پوریشن کے نام تحریری اطلاع بھیجا لازم ہے ورنہ کار پوریشن ذمہ دار نہ ہوگی۔ نامزدگی کی خاطر یا اس کی تثنیخ کے لئے نامزد کردہ شخص اشخاص یا ادارے کی رضا مندی ضروری نہیں ہے۔ کوئی نامزدگی ممنظری کے بغیر منسوخ کی جاسکتی ہے اور اس کی جگہ نامزدگی کی جاسکتی ہے اس طرح نامزدگی جتنی مرتبہ چاہیں بدلتی جاسکتی ہے۔ تفویض سے نامزدگی کی تثنیخ ہو جاتی

ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ میچید گیوں سے بچنے کے لئے یہ کارکن کو چاہئے کہ وہ پروپرٹی فارم پر کرتے وقت نامزدگی حاصل کرے۔

اگر نامزد کردہ وارث نابالغ ہو تو پالیسی کی درخواست داخل کرتے وقت سرپرست کا تقرر کرنا بہتر ہے، ورنہ نابالغ کو اس وقت تک کوئی ادائیگی نہیں کی جائے گی جب تک وہ قانوناً نابالغ نہ ہو جائے یعنی اس کی عمر اٹھاڑہ سال نہ ہو جائے مذکورہ بالاطر یقیناً مزدسر پرست کے لئے اپنی تحریری رضامندی ظاہر کرنا لازم ہے۔

تفویض (Assignment)

تفویض سے حقوق کا باتالہ مراد ہے۔ ان شورنس ایکٹ 1938ء کی 38 دفعہ کے تحت یہ دارا بی پالیسی کو بدل موثر (Valuable Consideration) کے لئے یا قریبی عزیز وقار میں سے کسی ایک کو محبت و انسیت کی خاطر تفویض کر سکتا ہے۔ پالیسی کی تفویض تحریری طور پر ہونی جائے اور اس پر ایک شخص کو بطور گواہ اپنے مستخط مع تاریخ ثبت کرنا لازم ہے۔ تفویض خود پالیسی بر تضییر (Endorsement) کے ذریعے سے یا علیحدہ اضافہ شدہ دستاویز کے ذریعے سے کی جاسکتی ہے۔ تمام تفویضات کی کارپوریشن میں رجسٹری لازم ہے۔

کوئی تفویض اس شخص کی رضامندی کے بغیر جس شخص کو پالیسی تفویض کی گئی تھی منسوخ نہیں کی جاسکتی۔

تفویض سے نامزدگی کی تتنیخ ہو جاتی ہے۔ بیشتر اوقات پالیسی مالی اغراض یا بدل موثر (Valuable Consideration) مثلاً بینک کے قرضوں کے لئے تفویض کی جاتی ہے۔ جب قرضے ادا کر دیئے جاتے ہیں اور پالیسی دوبارہ یہ کارپوریشن کی تازہ نامزدگی کا رجسٹری کرانی لازم ہے، ورنہ کلیز کی ادائیگی سے قبل جائشی کا شرطی حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاہم اگر قرض کی خاطر پالیسی یہ کارپوریشن کو تفویض کی جائے تو اس پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔

نوٹ:

مندرجہ بالا شرائط و مراجعات میں ترمیم و تتمیخ ممکن ہے۔

منظوم فروخت اور اس کا طریقہ کار

منصوبہ بندی ☆

منصوبہ بندی کا مطلب ایک طریقہ کار اختیار کر کے ایک طے شدہ اہداف کا حصول ہے۔

منصوبہ بندی کے پہلے مرحلے میں نمائندہ پہلے اپنے لئے ضروری ماہانہ آمدنی کا تعین کرتا ہے اور پھر اس کو حاصل کرنے کا پروگرام طے کرتا ہے۔ اس لئے بعد میں وہ تعین کرتا ہے کہ کمیشن کی خاطر خواہ آمدنی کے لئے اس کو کتنی پالیسیاں فروخت کرنی ہوں گی اور پہلے سال کا پریکیم یقیناً حاصل کرنا ہوگا۔ موقع یہ مدد دار سے ملنے کے لئے روانہ ہونے سے پہلے وہ ان کے ناموں کی فہرست تیار کرتا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہر موقع یہ مدد دار کے حالات، عمر، ازدواجی حیثیت، بچوں کی تعداد اور ان کی عمریں، پیشہ، آمدنی اور سابقہ بینے کی تفصیلات پر غور کرتا ہے تاکہ اسے موقع یہ مدد دار کی مخصوص ضروریات کا علم ہو سکے اور وہ ان ضروریات اور مسائل کے حل کے طور پر ایک مناسب منصوبہ تیار کرتا ہے۔

کامیاب نمائندے موقع یہ مدد داروں کی جغرافیائی یا علاقائی اعتبار سے فہرستیں تیار کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے سب سے قیمتی سرمائے یعنی وقت کی بچت ہوتی ہے۔ کامیاب نمائندے اپنا پروگرام بناتے وقت مطالعے کے لئے بھی گنجائش رکھتے ہیں۔ وہ ہر ہفتہ 3 تا 4 گھنٹے اپنے پیشے سے متعلق علم اور ہر مرندیوں کے حصول کی خاطر مطالعے میں صرف کرتے ہیں تاکہ ان کی صلاحیت اور قابلیت میں اضافہ ہوتا رہے۔ وہ وقاً فقاً اپنی فروخت کردہ پالیسیوں کی تعداد، اس پر صرف کئے گئے وقت اور حاصل شدہ کمیشن کے اعتبار سے اپنی ترقی کی رفتار کو جانپنچاہرتا ہے۔ وہ اپنی کوششوں، ملاقاتوں، انٹرویوز، تکمیل فروخت کی تعداد کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ کوششوں، ملاقاتوں، انٹرویوز، اور تکمیل فروخت کے انٹرویوز کی آپس میں نسبت ہے، اس سے خود ہی اپنی خوبیوں اور خامیوں کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے ہفتہ وار کام کے ریکارڈ کے خاکے سے یہ صورتحال اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ نمائندہ ایسے ریکارڈ سے یہ سیکھتا ہے کہ اس کو کتنی ملاقاتیں کرنی لازم ہیں اور پالیسی فروخت ہونے یا نہ ہونے سے قلع نظر ایسی ہر ملاقات کی کیا قیمت ہے۔

ہفتہ وار کام کاریکارڈ

کمیشن (کم از کم)	پریشیم	انٹرویو	فروخت	ملاقاتیں	دن	ہفتہ
4000 روپے	12000 روپے	-	1	3	7	اتوار
4000 روپے	12000 روپے	-	-	2	7	پیر
4000 روپے	12000 روپے	-	1	3	8	منگل
4000 روپے	12000 روپے	-	-	2	5	بھو
4000 روپے	12000 روپے	-	1	3	7	جمعرات
12000 روپے	36000 روپے	-	3	15	40	میزان
900= روپے	36000 روپے	-	-	: ہر ملاقات کی قیمت		
		40				
2400= روپے	36000 روپے	-	-	: ہر انٹرویو کی قیمت		
		15				
12000= روپے	36000 روپے	-	-	: ہر فروخت کی قیمت		
12000= روپے	-	3	-	: کمیشن فی ہفتہ		
48000= روپے	4x12000	-	-	: ماہنہ آمدانی		

عملی منصوبہ ☆

آئیے اب اس علم کی روشنی میں جو آپ نے حاصل کیا، ایک عملی منصوبہ بنائیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کوتنی آمدی کی ضرورت ہے۔ فرض کیا آپ کے ماہانہ اخراجات مندرجہ ذیل ہیں:

ماہانہ اخراجات

مکان کا کرایہ یا قسط بجلی، پانی، گیس وغیرہ کے بل	- 1
خوراک، لباس وغیرہ	- 2
سواری کا خرچ / کرایہ آمدورفت	- 3
دیگر کار و باری اخراجات	- 4
بچوں کی تعلیم	- 5
تفریحات	- 6
بچت / سرمایہ کاری (بیہم زندگی کی اقسام)	- 7
ٹیلی فون و موبائل	- 8
اتفاقی اور متفرق اخراجات	- 9
کل میزان	- 10

مندرجہ بالا اعداد و شمارہ نمائندوں کے ذاتی تجربہ کی بناء پر دیئے گئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار آپ کے تجربے اور مارکیٹ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔

آپ بھی اپنے ماہانہ اخراجات کا تخمینہ لگائیں اور اپنے سلز فیجیر یا ایریا فیجیر کے تجربے سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے کام کا منصوبہ بنائیں اور اس پر لجمی سے عمل کریں، انشاء اللہ کامیابی آپ کے قدم چوئے گی۔
 نمائندہ اگر وقت ضائع کرے تو نہ صرف اپنے اوپر ظلم ہے بلکہ یہ اس کے لئے معاشی خود کشی کے متراوٹ ہے۔ لہذا اپنے مقصد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم کی سمت اور مقام متعین کیجئے اور اللہ کا نام لے کر پراغتماد نماز میں سفر کی ابتداء کیجئے۔
 نمائندہ کو اپنا کام منقول میں کرنا ہوتا ہے اور اسی لئے اس کو اپنے وقت کے ہر منٹ کی بالکل صحیح منصوبہ بندی

کرنی ہوتی ہے۔ اسے غیر ضروری کاموں سے ہر منٹ بچا کر جہاں تک ہو سکے مفید طور پر استعمال کرنا چاہئے۔ نمائندے کے پیشہ و رانہ زندگی میں 6 چیزیں اس کی بدترین دشمن ہیں، ان سے بچئے۔

1۔ سفر، وقت اور فاصلے کے مسائل

فرض کیجئے دمتوح بیمہ دار ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر ہیں کہ یہ سفر تین گھنٹے میں طے ہوتا ہے لہذا ان سے ملنے میں اتنا ہی وقت صرف ہو گا جتنا ایک دوسرے سے نزدیک رہنے والے چھ اصحاب سے ملنے میں ہے چنانچہ اپنی ملاقاتوں کا منصوبہ اس طرح بنائیے کہ ملاقاتوں کے درمیان آپ کا وقت کم سے کم صرف ہو۔

2۔ تیار نہ ہونا

جس آدمی کو کسی موضوع کے بارے میں سب سے کم معلومات ہوں گی وہی اس کی تشریح میں سب سے زیادہ وقت لے گا۔ تیار آدمی بات سمجھانے میں بہت کم وقت لیتا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے خود سمجھ جائیے، پھر سمجھائے بغیر مناسب تیاری کے متوقع بیمہ داروں سے ملاقات کر کے اپنا اور متوقع بیمہ دار کا وقت ہرگز بر بادنہ کیجئے۔

3۔ غیر منظم اوقات کا ر

اپنا کام ایک مقررہ وقت پر شروع کیجئے اور کم از کم مقررہ وقت میں باقاعدگی سے کام کیجئے اس کو روزانہ کا معمول بنالیجئے اور اس میں کسی چیز کو حائل نہ ہونے دیجئے۔ اگر آپ ایک دفعہ اس عمل کو توڑیں گے تو امکان یہی ہے کہ آپ آئندہ اسے بالکل نظر انداز کر دیں گے۔ لہذا اپنے آپ کو وقت کی پابندی کا عادی بنائیے۔

4۔ انتظار

متوقع بیمہ دار سے اس وقت ملیئے جب اس کے پاس سب سے زیادہ فرصت ہوتا کہ آپ کو گھنٹوں انتظار نہ کرنا پڑے۔ اپنے اور متوقع بیمہ دار کے وقت میں ہم آہنگی پیدا کیجئے۔ اگر انتظار سے آپ کے دوسرے پروگرام میں فرق پڑتا ہے تو خوش اخلاقی سے اجازت لے کر دوسری ملاقات کے لئے روانہ ہو جائیے۔ لوگوں کو اس بات کا موقع نہ دیجئے کہ وہ آپ کا وقت ضائع کریں۔ اگر انتظار کرنا ہی پڑے تو پڑھنے کے لئے فنی اور پیشہ و رانہ کتابیں ساتھ رکھئے تاکہ انتظار کا وقت کام کے وقت میں تبدیل ہو جائے۔

5۔ غیر متعلقہ گفتگو

خود کو غیر متعلق بحث اور گفتگو میں الجھنے نہ دیجئے، سیاست، مذہب کو زیر گفتگو نہ لائیں۔ کار و بار ہی آپ کی گفتگو کا موضوع ہوا اور وہی آپ کی توجہ کا مرکز ہونا چاہئے۔

6۔ دفتری کام

اپنی میز پر یا دفتر میں بس اتنی دیر ٹھیکری یہ جتنا اشد ضروری ہو۔ یاد رکھئے یہ میز کی نہ تو آپ کی میز پر فروخت ہوتا ہے نہ دفتر میں اور نہ آپ کے گھر پر۔ فروخت ہمیشہ متوقع یہ میز دار کی میز پر، متوقع یہ میز دار کے دفتر میں اور متوقع یہ میز دار کے گھر میں ہوتی ہے۔

متوقع بیمہ داروں کی تلاش

متوقع بیمہ دار کی تلاش نہائندے کا فرض اولین ہے۔ متوقع بیمہ دار کی تلاش وہ کام ہے جو بیمہ کار کرن کا اس وقت تک جاری رکھنا ہو گا جب تک وہ فروخت بیمہ کے پیشے سے منسلک ہے۔ دوسرے کام اپنے آپ بھی ہو سکتے ہیں لیکن متوقع بیمہ داروں کی تلاش خود کاربیس ہوتی کہا جاتا ہے کہ فروخت بیمہ کے دو اقدام ہوتے ہیں۔

1- متوقع بیمہ داروں کو ڈھونڈنا

2- ان کو ملنا اور ان کو بیمہ فروخت کرنا۔

یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ متوقع بیمہ دار کوں ہے اور متوقع بیمہ داروں کی تلاش آپ کے لئے کیوں ضروری ہے آپ کو اب یہ سیکھنا ہے کہ آپ اپنے متوقع بیمہ داروں کی تلاش کے کام کو کس طرح انجام دیں گے۔ مندرجہ ذیل سطور میں متوقع بیمہ داروں کی تلاش کے مختلف طریقوں پر روشنی ڈالی گئی ہے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گا کہ یہ تلاش کتنی آسان ہو سکتی ہے۔ اگر اسے منظم طور پر اور با قاعدگی سے جاری رکھا جائے۔

آپ اپنی فہرست بنانے کے لئے خود سے یہ سوال پوچھئے:

اپنی سابقہ ملازمتوں کی وجہ سے میں کتنے لوگوں سے واقف ہوں؟ پہلے ماں، ملازم، آجر، سابق ملازم یا کاروباری یا پیشہ ورانہ شریک کار، سابق گاہک اور موکل، سابق کاروباری حریف میں سے کتنے لوگ میرے جانے والے ہیں؟

1- دوست احباب 2- محلہ دار 3- کلاس فیلوز 4- رفیق کار / ملازمت

5- رشیددار 6- کاروباری لوگ 7- پرانے بیمہ دار اور انکے احباب 8- مرکز اثر

9- ڈاکٹر 10- وکیل 11- دوکاندار

ذاتی مشاہدہ کی بنیاد پر اپنے لوگ جو بیمہ کیلئے موزوں ہوں۔

% کیا آپ ایسے اشخاص سے واقف ہیں۔ یا آپ کے حلقہ احباب میں ایسے حضرات یا خواتین کوئی ہیں جن کی حال میں شادی ہوئی ہو؟

- % جن کے یہاں حال میں ولادت ہوئی ہو؟
- % جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور کوئی بچہ لطور خاص ذہین ہو؟
- % انہوں نے نیامکان تغیر کیا ہو، یا خریدا ہو؟
- % ان کا مکان گروی ہو یا جو مکان کی تغیر کے سلسلے میں مقرر ہو؟
- % انہیں حال ہی میں ترقی ملی ہو یا تنخواہ میں اضافہ ہوا ہو؟
- % جو حال ہی میں یہاں منتقل ہوئے ہوں؟
- % جنہوں نے حال ہی میں کاروبار شروع کیا ہو؟
- % جن کے کسی دوست یا عزیز کا حال ہی میں انتقال ہوا ہو؟
- % جنہوں نے پہلی ملازمت حاصل کی ہو؟
- % جنہیں ترکہ ملا ہو؟
- % جن کا مستقبل تابناک ہو؟
- % جو کسی عجین حادثے کا شکار ہوئے ہوں؟
- % جو اپنے کاروبار یا پیشہ میں خوب ترقی کر رہے ہوں؟
- % جنہوں نے خوب روپیہ کمایا ہو؟
- آپ پہلے رابطے قائم کیجئے تاکہ اس کی وجہ سے لوگ آپ کو جواب دینے میں بس و پیش نہ کریں۔ ہھر پورتاڑ پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایک دل نشین پیرائے میں سوالات کریں۔ اگر آپ کے سوالات نے پولیس کی تفییش کا سارنگ اختیار کر لیا تو اس سے آپ کا مقصد پورا نہ ہو سکے گا۔

1 - مرکز اثر (Centre of Influence)

اگر آپ اپنے ان ملاقاتیوں اور دوستوں کی فہرست پر نظر ڈالیں جن سے آپ وقت فراغت ملتے رہتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگوں کی بڑی تعداد مل جائے گی جن کا معاشرے میں اثر و رسوخ بھی ہے اور عزت بھی اور وہ آپ سے خلوص بھی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ عزیز واقارب اور واقف کاروں کے "مرکز" کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نمائندے کی فہرست میں ایسے لوگوں کی تعداد جتنی زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے جس شخص سے نمائندے کا تعارف کرایا جائے اس سے جب وہ مل گا تو اس وقت اس "مرکز اثر" کا پورا سوخ کا فرما ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ بہت سے لوگوں سے سازگار حالات میں مل سکتا ہے۔

بہتر ہے کہ نمائندہ اپنے "مرکز اڑ" سے نام حاصل کرتے وقت انہیں واضح طور پر بتا دے کہ کس قسم کے افراد کے ناموں کی ضرورت ہے۔ مختصر اور یہ بتا دے کہ ان لوگوں سے وہ کیا کہے گا۔ اور اس لفظ کو لئے "مرکز اڑ" کی رضامندی حاصل کرے۔ ہر مطمئن بیمہ دار "مرکز اڑ" ہوتا ہے۔ نمائندے کو ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کو ٹھونڈنا چاہئے۔

2۔ لامتناہی زنجیر (Endless Chain)

جیسا اس اصطلاح سے خود ہی ظاہر ہے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ زنجیر کو بھی ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ جب ایک پالیسی فروخت کی جاتی ہے تو نمائندہ نئے بیمہ دار سے چند نام حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح دوسرا نئے بیمہ دار سے چند اور نئے نام۔ یہ سلسلہ ہمیشہ یونہی جاری رہتا ہے۔ کبھی ختم نہیں ہوگا۔

3۔ مشاہدے (Observation Method)

متعدد کامیاب نمائندوں کی رائے میں یہ متوقع بیمہ داروں کی تلاش کا بہترین طریقہ ہے۔ کامیاب بیمہ نمائندے اپنی آنکھیں اور کان کھل کر وہ اپنی فہرست ایسے ناموں سے بھر لیتے ہیں جن کے متوقع بیمہ دار ہونے کی وجہ سے ان سے ملاقات کی جاتی ہے۔ ایک نئی عمارت بہت سے آدمیوں کی کمائی کی شہادت ہے۔ ٹھیکہ دار، مستری، ماکان، نئے کرایہ دار اور اس عمارت سے وابستہ بہت سے دوسرے لوگ متوقع بیمہ دار ہو سکتے ہیں۔ ہر روز اخبارات میں ایسی اطلاعات ہوتی ہیں جو بیمہ کے نقطہ نظر سے بہت اہم ہوتی ہیں اور ایک مستعد نمائندہ ان اطلاعات کے ذریعے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور اپنے نئے متوقع بیمہ دار تلاش کر سکتا ہے اور اسی طریقہ کو تلاش راست بھی کہا جاتا ہے اور کچھ نمائندے اس طریقہ سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں۔

مبہم ملاقاتی یا متوقع بیمہ دار

مندرجہ بالا ذرائع سے جو بھی نام حاصل ہوں گے ان کو بیمہ زندگی کی اصطلاح میں "مبہم ملاقاتی" کہا جائے گا۔ یعنی ایسے لوگ جن کے متعلق ابھی گمان ہو کر واقعی ہمارے گا ہب ہن سکتے ہیں کہ نہیں۔ تاہم ان میں سے جو مندرجہ ذیل شرائط پر پورے اتریں ان ہی کو متوقع گا ہب تصور کیا جائے گا۔

- 1۔ ان کو بیمہ زندگی کی ضرورت ہے۔
- 2۔ وہ قابل رسائی ہیں۔
- 3۔ وہ پریکیم ادا کر سکتے ہیں۔
- 4۔ وہ طبی اور اخلاقی لحاظ سے موزوں ہیں۔

منصوبے کی پیشکش

فروخت بیہد کے سلسلے میں بیہد نمائندے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ پالیسی کی فروخت کا اثر و یو ایسے منظم تصورات کی پیشکش ہوتا ہے جو عمل کی طرف راغب کرتے ہیں، فروخت کے تصورات میں ایک چھپی ہوئی قوت ہوتی ہے جو ایک بیہد دار کی سوچ میں داخل ہو کر اس کے ذہن میں پہلی پیدا کردیتی ہے وہ اس احساس سے چونکہ پڑتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے مسائل بھی تھے جن کا کوئی علم نہیں تھا۔ اب وہ اس کے متعلق سوچنا شروع کر دیتا ہے لیکن، محض خیالات اپنی حد تک اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ قوت عمل پیدا کر سکیں جب تک کہ ان کو ایسے منظم طریقے سے پیش نہ کیا جائے کہ متوقع بیہد دار کی "نہیں" سے "ہاں" تک کی راہ کسی بوجھ یا تحکماٹ کے بغیر طے ہو جائے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اثر و یو فروخت کے تصورات کی منظم پیشکش کا دوسرا نام ہے۔ یوں آپ بیہد دار کے مسائل، ضرورتوں اور اس کے مستقبل کے منصوبوں کی تجھیل کے تمام تصورات کو موزوں اور یکجا کر کے اس کے ذہن میں سمودیتے ہیں۔

رسائی فروخت کے عمل کا وہ مرحلہ ہے جہاں آپ اس شخص کے رو برو ہوتے ہیں جس سے آپ بیہد زندگی کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس کی کامیابی آپ کو ایک متوجہ سامع سے اپنے مطلب کے بارے میں بیان کرنے، اپنے تصورات پیش کرنے یعنی اثر و یو حاصل کرنے کا موقع فراہم کر دیتی ہے لہذا رسائی کا مقصد یہ ہے کہ متوقع شخص آپ کی بات سننے پر تیار ہو جائے۔

عموماً بیہد دار کو نمائندے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی لہذا اس کا پہلا عمل یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح اس سے چھکارا حاصل کیا جائے۔ متوقع بیہد دار اپنے ذہن کے دروازے بند کر لیتا ہے اور پھر ان دروازوں کو کھولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ کا پہلا جملہ اہم ترین ہوتا ہے۔ ماہر بیہد نمائندوں نے یہ ازال معلوم کر لیا ہے کہ انسانی ذہن کی چاپی اس جملے میں ہونی چاہئے جس سے اس کا ذہن کھل جائے اور وہ آپ کی باتیں توجہ سے سن سکے۔ اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ پہلا جملہ متوقع بیہد دار کے لئے دلچسپی کا باعث ہو، مثلاً

1 - خان صاحب میں کئی مرتبہ آپ کی دکان سے گزر اور ہمیشہ یہی طے کیا کہ اتنی اچھی دکان کے مالک سے ضرور ملنا چاہئے۔ میرا نام رشید اور میں بیہد نمائندہ ہوں (اس کا رد عمل ہمیشہ تسلی بخش ہو گا خواہ خان صاحب بیہنے سے متعلق گفتگو

کرنا پسند نہ کریں، آپ اس کو آزمائیے تو سہی)

- 2- خان صاحب میں نے کاروباری حلقوں میں آپ کی بڑی تعریف سنی ہے اور میں آپ سے ملنے حاضر ہوا ہوں کر مجھے کامیاب لوگوں سے ملتا پسند ہے۔ مجھ رشید کہتے ہیں اور میں بیمہ نمائندہ ہوں۔
- 3- خان صاحب میں اس لئے حاضر ہوا تھا کہ سنا ہے آپ شہر کے سر کردہ وکیلوں میں سے ہیں۔ میرا نام رشید ہے اور میں بیمہ نمائندہ ہوں۔
- 4- خان صاحب میں آپ کے کارخانے کے پاس سے متعدد بارگزراں ہوں اور ہر بار یہی سوچا کے آپ کے جزل نیج سے ہوں، آپ کا ادارہ واقعی قابل تعریف ہے۔ میرا نام رشید ہے اور میں بیمہ نمائندہ ہوں۔
- 5- خان صاحب سنا ہے کہیلوں کے بارے میں آپ کی معلومات لاثانی ہیں۔ میرا نام رشید ہے اور میں بیمہ نمائندہ ہوں۔

رسائی کے مرحلے میں آپ نہ کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی بیمے کی کہانی چھیڑتے ہیں۔ اس طریقہ کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے یعنی موقع بیمہ دار کے ذہن میں یہ خیال ابھارنا کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات سنے۔ اپنی بات کہنے کے لئے آپ چاہے جو بھی الفاظ استعمال کریں۔ آپ کے الفاظ سے چند لازمی باتوں کا اظہار ضروری ہے۔ یہ باتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

☆ تعارف:

اگر آپ اجنبی لوگوں سے ملیں تو آپ اپنا اور اسٹیٹ لائف کا تعارف بھی ضرور کرائیں۔ ظاہر ہے کہ بیمہ داروں احباب یا ملاقاتیوں کے لئے یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ کبھی مت بھولئے کہ اپنے واقف کاروں سے بات چیت کرنا ہر چند کہ آسان ہے تاہم کوئی نہ کوئی بات ایسی کہنی یا بتانی ضروری ہے جس سے ان میں وہ دلچسپی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے مفاد کے کسی موضوع پر گفتگو کرنے لگیں۔

☆ ملاقات کا مقصد:

متوقع بیمہ دار کو اپنی ملاقات کا مقصد بتانا آپ کا اخلاقی فرض ہے۔ آپ اس کا وقت بھی لے رہے ہیں اور غالباً اس کے دوسرے کاموں میں حائل بھی ہو رہے ہیں۔ چونکہ بشری تقاضے کے تحت بیشتر لوگ صرف ایسی چیز کے بارے میں گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں جس میں ان کا اپنا فائدہ ہو، لہذا آپ اپنی ملاقات کا مقصد ان کو فوراً ہی بتادیں، اگر آپ کے

پاس کوئی ایسا تصور کوئی ایسی اطلاع ہے یا آپ ان کو کوئی ایسی خدمت کر سکتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ تو وہ بات پہلے کہتے تاکہ وہ لوگ آپ کی بات پر پوری توجہ دے سکیں۔

☆ دوسروں کی بات کا اثر:

چونکہ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ جس چیز سے دوسروں کو فائدہ ہوا ہے اس سے وہ محروم رہے۔ اس لئے جب آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دوسرا لوگوں نے آپ کے خیالات اطلاع یا خدمات کو مفید پایا ہے تو ان کی دلچسپی بیدار ہو جاتی ہے اور ان کے دل میں تفصیلات معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ خود تمام معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر اس وقت جب انہیں ان معلومات کی قدر و قیمت کا احساس ہو جاتا ہے۔

☆ فیصلہ متوقع بیمہ دار ہی کو کرنا ہے:

یہاں پہنچ کر آپ اپنی گفتگو سے یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ متوقع بیمہ دار پر کوئی زور اور زبردستی دباو نہیں ہے بلکہ آپ اپنے اور متوقع بیمہ دار کے تعلقات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور یہ فیصلہ کرنا اسی کام ہے کہ آپ کی گفتگو اس کے مفاد میں ہے یا نہیں؟ آپ کی کامیابی اس بات میں ہے کہ آپ متوقع بیمہ دار کو یہ یقین دلادیں کہ آپ یہ سب کچھ کمیشن کی خاطر نہیں کر رہے بلکہ خاندان کو مالی تحفظ فراہم کرنا بطور سربراہ خاندان متوقع بیمہ دار کی ضرورت ہے اور آپ اسے اس ضرورت کا احساس دلا کر اس کی ذاتی اور معاشرے کی عظیم خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔

☆ وقتِ ملاقات:

متوقع بیمہ دار کو یہ بتا دیجئے کہ آپ اس کے صرف چند منٹ لیں گے چونکہ بیشتر لوگ مصروف ہوتے ہیں یا ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ مصروف ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ لوگ خواہ مخواہ انہیں پریشان کریں۔ اس لئے آپ سے موقع ہے کہ آپ اس چمن میں محتاط رو یا اختیار کریں گے اور متوقع بیمہ دار کو کسی مرحلہ پر اس بات کا احساس نہیں ہونے دیں گے کہ آپ اس کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔

☆ فرض کیجئے آپ کو گفتگو کرنے کے لئے متوقع بیمہ دار کی اجازت حاصل ہے:
آپ کو یہ فرض کر لینا چاہئے کیونکہ متوقع بیمہ دار فطری طور پر یہ چاہے گا کہ وہ آپ کے آنے سے پہلے جو کچھ کر رہا تھا پھر وہی کرنے لگے۔ اس کی رضامندی فرض کر کے آپ اس کا وہ وقت پجادیت ہیں جو وہ آپ کی بات نہ سننے کی

کوشش میں صرف کرتا ہے اور اس طرح آپ متوقع یہیدار کے ساتھ چند منٹ با آسمانی گفتگو کر سکتے ہیں۔

☆ رابطہ کا معیاری انداز:

رابطہ کا معیاری انداز یہ کی ضرورت اور اس کے فائدہ پر گفتگو کے لئے بہترین ذریعہ ہے۔ الفاظ کے معمولی روبدل سے یہ ہر جگہ استعمال کے لئے موزوں ہے۔ زیر نظر گفتگو کو بچوں کیلئے تعلیمی یہ کے سلسلے میں انٹرو یو حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

شم صاحب میں اٹیٹ لائف کا نمائندہ ممتاز احمد ہوں۔ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس کچھ معلومات ہیں جو آپ جیسے متعدد والدین کے لئے سودمند ثابت ہوئی ہیں صاحبزادے کا تعلیمی مستقبل میرا موضوع ہے۔ شمس صاحب فی الوقت میں نہیں جانتا کہ یہ معلومات آپ کے لئے کس قدر پچھپی کا باعث ہو گی تاہم اس کا فیصلہ آپ خود چند منٹ میں کر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس چند منٹ ہوں تو ابھی یہ گفتگو ہو سکتی ہے۔

☆ پیشکش:

فروخت کے عمل کا اگلامرحلہ متوقع یہیدار کے سامنے اپنا پروگرام پیش کرنا ہے۔ متوقع یہیدار آپ کی پیشکش سے متاثر ہو کر ہی اپنے آئندہ اقدام پر غور کرنے کے لئے تیار ہو گا۔ آئیے موزہ پیشکش کے پانچ اہم نکات سمجھ لیں۔

☆ منطق اور جذبات:

محض اعداد و شمار یا منطق کی مدد سے بہت کم پالیسیاں فروخت ہو سکیں گی۔ ان کے ساتھ جذباتی رد عمل اور تحریک پیدا کرنے والے الفاظ شامل ہوں تو سازگار اقدام کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ منطق یعنی دلائل اور اعداد و شمار متوقع یہیدار کو ہنی اعتبار سے مطمئن کر دیتے ہیں اور وہ یہ تو سمجھ لیتا ہے کہ آپ کی پیشکش دانشمندانہ اور مناسب ہے لیکن تحریک پیدا کرنے والے الفاظ جو صورت حال کو اس طرح واضح کر دیں کہ آپ کے خیالات تصویریں کے ذہن میں ابھر نے گیں اور اس کے جذبات میں ہاچل پیدا کر دیں ان کی اہمیت کچھ اور ہے۔ آپ کی جذبات سے بھری ہوئی ڈرامائی گفتگو ہی متوقع خریدار کو عملی اقدام پر آمادہ کرتی ہے۔ لوگ عقل سے زیادہ جذبات سے مجبور ہو کر کام کرتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فروخت کا فن دکھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں فروخت کے فن کا زیادہ تعلق انسانی ضروریات کے نفیسیاتی پہلو سے ہے جو بنیادی طور پر جذباتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔

منطق ذہن کو اور جذباتی گفتگو دل کو یقین دلاتی ہے جب دماغ اور دل یکجا ہوں تو ہی متوقع یہیدار عمل کرتا

ہے۔ دستخط شدہ پوپولر پیکم اور طبی معائنه کے لئے رضامندی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

☆ خریداری کے اسباب

بیہدہ زندگی کے حوالے سے خریداری کے معنی وہ تمام اسباب و وجوہات ہیں جن کے پیش نظر والدین بیہدہ پالیسی لیتے ہیں لہذا پیشکش میں وہ تمام باتیں شامل کی جانی چاہئیں جو متوقع بیہدہ دار کیلئے ضروری ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص مختلف ہوتا ہے اور بیہدہ خریداری کے اسباب ہر ایک کے پاس مختلف ہوتے ہیں۔ ایک متوقع بیہدہ دار جس سبب سے پالیسی لیتا ہے وہ سبب دوسرے کے لئے بے اثر ہو سکتا ہے اگر ہم اصل دلائل کے ساتھ تیار نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سبب چھوڑ جائیں جو کسی مخصوص بیہدہ دار کو خریداری پر مجبور کر سکتا ہو۔

☆ منطقی تسلسل

جب متعدد خیالات اور منطقی دلائل پیش کئے جاتے ہیں تو ان کی ترتیب غور و فکر چاہتی ہے۔ جب تک ایک خیال دوسرے خیال سے منطقی طور پر مربوط نہ ہو تو تمام خیالات کا مجموعی تاثر متوقع بیہدہ دار کے ذہن میں واضح نقش مرتب نہیں کرتا۔ باہمی ربط کا خیال کئے بغیر ایک خیال سے دوسرے خیال پر جست لگانے سے پیشکش کمزور ہو جاتی ہے اور اس طرح متوقع بیہدہ دار مطمئن ہونے کے بجائے الجھ جاتا ہے۔ جب خیالات منطقی تسلسل کے ساتھ پیش کئے جاتے ہیں تو ایک خیال فطری طور پر دوسرے خیال تک کی راہ ہموار کرتا ہے۔ تمام خیالات کا ہتمی اثر یہ ہوتا ہے کہ متوقع بیہدہ دار اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے جس پر آپ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں یعنی وہ اسی وقت آپ کی تجویز کردا پالیسی خریداری لیتا ہے۔

☆ پریشان کن خیالات:

جب کوئی متوقع بیہدہ دار کسی خیال یا صورت حال سے پریشان ہو جاتا ہے تو اس وقت تک اس سے نجات نہیں پاسکتا جب تک کہ وہ اس سلسلہ میں کچھ کرنہیں لیتا۔ ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں وہ ہماری تجویز مان لے۔ متوقع بیہدہ دار عموماً اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں جب ہم ان پر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ان کا کوئی مسئلہ ہے۔ اگر متوقع بیہدہ دار اس نکتہ کو تعلیم کر لے تو ہمارے تجویز کردہ حل پر غور کرنے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔

☆ ایک عام طرز:

ہم بتاچکے ہیں کہ کسی پیشکش کا ہتمی مقصد یہ ہوتا ہے کہ متوقع بیہدہ دار اپنے مسئلہ سے آگاہ ہو جائے اور اس

(بے اطمینانی) یا پریشانی کی کیفیت میں مسئلہ حل کرنے کے لئے آپ کے پیش کردہ طریقہ کار پر راضی ہو جائے چنانچہ پیشکش حسب ذیل ترتیب کے مطابق ہونی چاہئے۔

- ۱۔ عام مسئلہ اس طرح اٹھانا چاہئے کہ اس کا اطلاق ان تمام متوقع بیمہ داروں پر ہو جنہیں آپ کے متوقع بیمہ دار جیسے حالات کا سامنا ہے۔
- ۲۔ مسئلہ کے موزوں اور بہترین حل کے طور پر بیمہ زندگی کا کوئی منصوبہ پیش کرنا۔
- ۳۔ متوقع بیمہ دار کو سازگار اقدام کے لئے تحریک دلانا اور پالیسی کی فروخت۔

مثال: 1500 روپیہ ماہانہ بچت پر مبنی منصوبہ:

موضوع تک پہنچنے کے لئے سوالات:

- ۱۔ میرا خیال ہے جناب کہ بہت سے لوگوں کی طرح آپ بھی بچت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟
- ۲۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کی طرح آپ کو بھی طویل عرصہ تک پابندی کے ساتھ بچت میں دشواری پیش آتی ہوگی۔ کیا یہ صحیح ہے؟
- ۳۔ اگر میں آپ کو بچت کا ایسا منصوبہ پیش کروں جس سے بہتر آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو اور اس کا فیصلہ بھی آپ خود ہی کریں کہ میرا دعویٰ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو کیا آپ 1500 روپیہ ماہانہ بچت کر سکیں گے؟
اس طرح ثابت جوابات حاصل کر کے آپ اپنی تجویز پیش کر سکتے ہیں۔

آپ نے دیکھا کہ اچھی پیشکش کے کیا لوازمات ہیں اور ان کے استعمال کی تکنیک کیا ہے۔ فروخت کے فن کے جدید تصورات متوقع بیمہ دار کے ذہن میں تحریک پیدا کرنے اور پیشکش کے فن میں مہارت کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے تو خود آپ کو تجہب ہو گا کہ کتنے متوقع بیمہ دار آپ سے بیمہ زندگی خریدنے پر آمادہ ہیں۔

چند ممکنہ اعتراضات اور

ان کے جوابات

کامیاب نمائندے اس بات سے متفق ہیں کہ اصل طاقت جذبات کی ہوتی ہے اور دل کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ذہن کو کچھ علم نہیں ہوتا پھر بعض نمائندے اپنے انٹرویو کی بنیاد صرف دلیلوں پر رکھتے ہیں کیونکہ وہ جذبات کے ذریعے رسائی کے طریقہ کار سے زیادہ واقف نہیں ہوتے وہ ڈرتے ہیں کہ اگر کامیاب تاثر پیدا نہ کر سکے تو وہ احقن نظر آئیں گے یا پھر متوقع یہ دار جذباتی کیفیت کا شکار ہو گیا تو وہ کس طرح اپنے جذبات پر قابو پائے گا۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ گفتگو اس پیرائے میں کہتے کہ متوقع یہ دار کو یہ احساس ہی نہ ہونے پائے کہ اس کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے۔

اپنے متوقع یہ دار کو یہ بتانے کے بجائے کہ اگر اس نے یہ زندگی خریدنے میں غفلت کی کیا تو اس کے خاندان کا کیا انجام ہو گا اسے یہ بتائیے کہ فلاں شخص کی موت کے بعد اس کے خاندان پر کیا گزری یا اگر یہ بتانا پسند نہ کریں کہ تعلیم مکمل نہ کرنے کی صورت میں متوقع یہ دار کے بچوں کی زندگی پر کیا ثرپڑے گا تو آپ کسی ایسے لڑکے قصہ سن سکتے ہیں جس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے نتیجے میں وہ پچھلے تعلیم کے پیدائشی حق سے محروم رہ گیا۔

اپنے انداز بیان کو ڈرامائی بنائیے۔ تحریک پیدا کرنے والے عمدہ کہانیوں اسٹیٹ لائف کے ادا کردہ فلیز (دعووں) کی خبروں یہ نہ خریدنے والے کسی شخص کی کہانی الغرض ایسی تمام باتیں اپنے ذہن میں محفوظ کرتے رہے۔ جیسے جیسے آپ کا تجربہ بڑھتا جائے گا آپ خود اپنے تجربات اپنی کہانیاں بیان کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس وقت تک اچھی تحریک پیدا کرنے والی کہانیاں ڈھونڈیے اور ان کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ اور ڈرامائی بنانے کی مشق کیجئے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملخص بنائیے۔ کامیاب تحریک کی اصل بنیاد خلوص ہے ابراہیم لکن کے الفاظ ہیں:

”اگر آپ کسی شخص کو اپنے مقاصد کا حامی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو یقین دلائیے کہ آپ اس کے مغلص دوست ہیں۔ یہی شہد کا وہ پہلا قطرہ ہے جو اس کے دل پر اثر کرے گا اور پھر چاہئے جو کہیئے وہ آپ کا ہو کر رہے گا اور آپ کو اپنے مقصد کی صداقت کا یقین دلانے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔“

☆ اعتراضات:

بیہدہ زندگی کے حوالے سے ایک مشہور ہے کہ جب تک متوقع بیہدہ اعراض نہ کرے آپ فروخت مکمل نہیں کر سکتے۔ اعتراضات سے ڈرانے کے بجائے آپ کو چاہئے کہ ان کو فروخت کے عمل کو آگے بڑھانے کی عالمیں سمجھیں اعراض سے فروخت کا عمل صرف اسی وقت خراب ہوتا ہے جب اس کا جلد اور موثر جواب نہ دیا جائے۔ جب اعتراضات کی بات آتی ہے تو حقیقت میں نمائندے کو متوقع بیہدہ اعراض پر برتری حاصل ہو جاتی ہے اور موقع حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بیہدہ ادارکو مزید مطمئن کر سکے۔

بنیادی طور پر چند ہی اعتراضات کے جاسکتے ہیں اور ان کی تعداد کم ہے کہ ہر اچھا نمائندہ ان کا جواب اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس کے برکس کوئی بھی ایسا متوقع بیہدہ نہیں ہوتا جو تمام اعتراضات سے واقف ہو۔ اس کو اعتراض کرنے کی مشق بھی نہیں ہوتی جبکہ کامیاب نمائندہ سوالوں کا جواب دینے میں ماہر ہوتا ہے۔

☆ ممکنہ اعتراضات اور ان کے معیاری جوابات:

1۔ ”میں اس خرچ کو برداشت نہیں کر سکتا۔“

جواب: جناب! میں جانتا ہوں آپ بچت کر سکتے ہیں۔ خدا کے فضل سے آپ کے پاس ایک عمدہ مکان ہے عمدہ ملازمت ہے اور اگر میں یہ سمجھتا کہ آپ خداخواستہ 500 روپے ماہانہ بھی نہیں بچا سکتے تو میں آپ کے پاس کیوں آتا؟
2۔ پہلی تاریخ کے بعد یا (بعد میں) ملیے گا۔“

جواب: بہتر ہے! میں بڑی خوشی سے حاضر ہوں گا لیکن جب بیہدہ زندگی حاصل کرنا آپ کی ضرورت ہے تو پھر ابھی کیوں نہ حاصل کر لیا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسئلہ ابھی حل ہو سکتا ہے۔ اس لئے آئیے بات شروع کریں۔

3۔ ”اگر میرا منتقل ہو گیا تو میری بیوی استانی کی حیثیت سے یاتجارت کے ذریعے اچھی آمدی کر لے گی۔“

جواب: آپ نے درست فرمایا لیکن میرا خیال ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہ چاہیں کہ خداخواستہ آپ کی بیوہ کو کام کرنا پڑے۔

4۔ ”میں ایسے حصہ خرید سکتا ہوں جن سے زیادہ آمد نی ہو۔“

جواب: درست ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ان سے ایک پیسے کی بھی آمد نہ ہو۔ یہ پلان تو آپ کی سرمایہ کاری کے تحفظ کے لئے ہے۔

5۔ ”میں غیر شادی شدہ ہوں مجھے یہ کی ضرورت نہیں؟“

جواب: آپ کی یہ بات اتنی ہی درست ہے جتنی یہ کہ اسکول جانے کی عمر میں آپ کو تعلیم کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے مستقبل کی خاطر تعلیم حاصل کی اور اب یہ بھی اسی مقصد سے خریدیں گے۔

6۔ ”میرا ایک برا درستی (یا کوئی اور عزیز) یہ کام نہ کرندے ہے۔“

جواب: بہت سے لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے ذاتی معاملات کی اطلاع نہیں دینا چاہتے۔
7۔ ”دو ماہ کے بعد تنخواہ بڑھنے کی توقع ہے۔ اسی وقت یہ خریدوں گا۔“

جواب: درست اور اگر ہم آئندہ دو ماہ کے لئے آپ کو تحفظ فراہم کر دیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا۔“

8۔ ”میں اپنی بیگم سے مشورہ کروں۔“

جواب: پہلے پالیسی ملنے کا تولیقین کر لیجئے۔ اگر آپ ڈاکٹری معاونہ میں پاس نہ ہوئے تو ان کو پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر ان کو بھی اس بات کی خوش ہوگی کہ آپ ان کا اور پھر ان کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ تاہم اگر آپ پوچھنا ہی چاہتے ہیں تو یہوی کے بجائے کسی بیوہ سے پوچھئے کہ خاوند کی موت کے بعد اس کے لئے پیسہ کی کیا ہمیت ہوتی ہے۔

9۔ ”میں اپنی رقم کی سرمایہ کاری کر سکتا ہوں۔“

جواب: سرمایہ کاری کے ماحرین کاروباری دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ سرمایہ کاری کے ذریعہ منافع کا حصول واقعی برآمدہ ہے۔ ہم پالیسی کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کی خدمات بھی پیش کرتے ہیں۔

10۔ ”میرے پاس پہلے ہی کتنی پالیسیاں ہیں اور میں زندہ سے زیادہ مرکے قیمتی ہوں۔“

جواب: بعض دفعہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے لیکن دس لاکھ روپے کی 20 فیصد سالانہ پر سرمایہ کاری کی جائے تب آپ کی سالانہ تنخواہ پوری ہو سکتی ہے۔ کم از کم اتنی آمد نی کی ہم کو ضمانت دینے دیجئے۔

11۔ ”یہ بہت گراں ہے۔“

جواب: یہ کران نہیں ہوتا۔ روپیہ تو کھانے کپڑے تعلیم اور یا ٹارمنٹ پر خرچ ہوتا ہے اور یہ سب سے ستا طریقہ ہے۔

12 - ”میرے لئے مشکل ہے۔“

جواب: ذرایہ سوچنے کا آپ کی تجوہ ملنا بند ہو جائے تو آپ کی بیگم اور صاحبزادی کو تین مشکل پیش آئے گی۔

13 - ”میرے سرالی عزیز دلمتند ہیں۔“

جواب: بڑی اچھی بات ہے لیکن میرے خیال میں آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ آپ کے دوست یہ کہیں گے کہ بیگم کو میکے جا کر رہنا پڑا خواہ وہ چاہتی تھیں یا نہیں۔

14 - ”میرا انکام ٹکلیں اور بڑھ جائے گا۔“

جواب: بڑی اچھی بات ہے گویا آپ کی آمد میں اضافہ ہو رہا ہے پھر یہی کا نظام تو بڑھتے ہوئے ٹکسوں کے بوجہ کو کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔“

15 - ”افراط از میں زیادتی ہو سکتی ہے۔“

جواب: اگر ایسا ہو تو روپے کی اور بھی ضرورت پڑے گی اسی لئے بہت سے لوگ اپنے یہی میں اضافے کر رہے ہیں۔

16 - ”جس طرح بچت کھاتے (سیونگ اکاؤنٹ) سے روپیہ نکال سکتا ہوں۔ اسی طرح یہی سے نہیں نکل سکتا؟“

جواب: یہی تو بچت کھاتے (سیونگ اکاؤنٹ) کی اصل خرابی ہے۔ اس میں روپیہ چھوٹا ہمارے لئے بے حد مشکل ہے، ٹھیک عرض کیا نا میں نے؟“

17 - ”میرا اپنا نمائندہ ہے۔“

جواب: بالکل ٹھیک بہت سے لوگ اپنے خاندانی معانی بھی رکھتے ہیں لیکن مخصوص قسم کے علاج کے لئے خصوصی ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے اور میں آپ کو ایک خاص پلان کی پیش کش کر رہا ہوں۔

18 - ”مجھے پہلے اپنے قرض ادا کرنے ہیں۔“

جواب: آپ کے فوری طور پر یہ خریدنے کی یہی تو ایک وجہ ہے۔ اس طرح آپ کو یقین تو ہو جائے گا کہ آپ کے تمام قرض ادا ہو سکیں گے اور اس کے لئے آپ کی بیگم یا آپ کے خاندان کو کوئی پریشانی نہیں ہو گی۔

19 - ”میں مکان خرید رہا ہوں۔“

جواب: بڑی اچھی بات ہے لیکن یا نے میں آپ تحفظ کی شق تو شامل کرانا چاہیں گے صحیح ہے نا؟ تب ہی آپ اپنے ورثاء کے لئے مکان کی رجسٹری کے کاغذات ہی نہیں بلکہ مکان بھی چھوڑیں گے۔

20۔ ”میں یہ کرنے میں یقین نہیں رکھتا“

جواب: جناب آپ کے ذہن میں شاید پرانے منصوبے ہیں جن سے استفادے کے لئے مرتضوی ہے لیکن موجودہ منصوبے خصوصاً وہ جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے زندہ رہنے کی صورت میں بھی اتنے ہی مفید اور کارگر ثابت ہوں گے۔

21۔ ”میں حال ہی میں ایک پالیسی لے چکا ہوں“

جواب: یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ یہ زندگی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور پالیسی لینے کی الہیت رکھتے ہیں۔ آئیے میں بتاؤں کہ ہمارا Re Adjustment Plan آپ کے دوسرا یہ کے ساتھ کس طرح مریبوط ہو گا۔

22۔ ”مجھے اس کی ضرورت نہیں۔“

جواب: ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو لیکن پیشتر لوگ خود براہ راست حاجتمند ہوں، پھر بھی اچھی سرمایہ کاری پسند کرتے ہیں۔ آئیے! آپ کو یہ عمدہ پلان بتاؤں۔

23۔ ”مجھے سیوگن ٹنکیٹ پر بہتر شرح منافع مل سکتا ہے۔“

جواب: سیوگن ٹنکیٹ کا پنا مقام ہے لیکن یہ پلان ان سے آگے جاتا ہے اور آپ کو متوقع چوتھی کی خانست دیتا ہے۔ آئیے! میں آپ کو سمجھاؤں۔

24۔ ”میرا ایک دوست یہ کہا رکرتا ہے۔“

جواب: ہم یہ نہ مانندے مئے دوست اور گاہک بنانا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔۔۔۔۔ میں آپ کو خاص روایاتر منٹ پلان دکھاتا ہوں۔

25۔ ”میں دوسروں کے لئے بہت سارو پیش چھوڑنا چاہتا۔“

جواب: یہ تو جھے پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ماہانہ ادائیگیوں کی صورت میں روپیہ چھوڑنے کی سفارش کرتے ہیں۔

26۔ ”زمانے کا کوئی بھروسہ نہیں۔“

جواب: یہ بھی تو اسی لئے خریدا جاتا ہے۔ اگر ہمیں مستقبل کا صحیح علم ہوتا تو یہ کی کیا ضرورت تھی۔ یہ زندگی سے مستقبل کا اندر یہ دور ہو جاتے ہیں۔

27۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔“

جواب: اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ میں نے ابھی آپ کو اپنا پلان دکھایا ہی نہیں۔ (کچھ پھلت دکھائے)

28۔ ”میری ملازمت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔“

جواب: ہو سکتا ہے اس میں، ہی آپ کی بہتری ہو اور آپ کو اس سے اچھی ملازمت مل جائے۔

29۔ ”میری بیگم کو اعتراض ہے۔“

جواب: وجہ یہ ہے کہ ان کو خاتون خانہ ہونے کے سب باس جیسے بچت اور آدمی کے ملے جلنے پلان کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ

بات اگر بیگمات کی سمجھ میں آجائے تو وہ ہماری سب سے زیادہ پر جوش مددگار و معافون ثابت ہوں گی۔

30۔ ”لیکن بہت زیادہ ہے۔“

جواب: لیکن تو اور بھی بڑھ سکتے ہیں اور اوسط درجہ کا آدمی یعنی ہی کے سہارے آگے بڑھ سکتا ہے۔ آئیے! میں یہ منصوبہ بیان کرتا ہوں۔

31۔ ”زندگی بہت گراں ہو گئی ہے۔“

جواب: وہ تو ہے ہی اسی لئے تو اتنے سارے لوگ اپنے یہ پروگراموں میں اضافہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو احساس ہے کہ بیسہ نہ ہونے سے ان کے اہل خاندان کو کیسی مصیبت کا سامنا ہو گا۔

تکمیل فروخت کے

مختلف طریقے

ہم اس مقام تک آگئے ہیں جہاں سے عمل شروع ہو جانا چاہئے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں متوقع یہ مدار سے درخواست پر دستخط کر کے اس کا چیک لے لینا ہے اور اس کو طبی معاملہ کے لئے راضی کر لینا ہے۔

☆ رضامندی فرض کر لجھئے :

سب سے پہلے نمائندے کو اپنے دل میں اس بات کا یقین کر لینا چاہئے کہ جس پلان کی اس نے سفارش کی ہے اتنا عمدہ اور پرکشش ہے کہ متوقع یہ مدار کے دل میں اس کی طلب پیدا ہو گئی۔ ہے اس کو اس بات کا کامل یقین ہونا چاہئے کہ یہ پلان بیمدادار کے لئے بے حد اہم ہے۔ اگر متوقع یہ مدار کی جگہ وہ خود ہوتا تو اسی پلان کے تحت پالیسی لیتا۔ نمائندہ متوقع یہ مدار کی جگہ پہلے خود اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کرتا ہے پھر کوئی ایسی بات کرتا ہے جس میں یہ چیز مضر ہوتی ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بہر حال پیدا ہوتا ہے کہ متوقع یہ مدار ہمیشہ فیصلے کو ٹالنا چاہتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نمائندے کو فیصلہ کی طرف رہنمائی کرنی چاہئے یعنی ایک بہت سادہ طریقہ کار سے کار و بار کی تکمیل کی کوشش کرنی چاہئے۔

آپ درخواست میں درج ایسے سوالوں سے ابتداء کر سکتے ہیں جن کا جواب دینا آسان ہو۔ مثلاً تاریخ پیدائش، جائے رہائش وغیرہ۔ اگر متوقع یہ مدار آپ کو سوال پوچھنے سے نہ روکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی رضامندی حاصل ہو گئی ہے اور اگر متوقع یہ مدار کارروائی کو جاری رکھے تو آپ درخواست کا فارم کمکل کرتے جائیں۔

☆ صحیح وقت پر تکمیل کیجئے:

آپ اس وقت تکمیل کریں گے جب متوقع بیمہ دار کو یا طمینان ہو جائے گا کہ پلان مناسب اُنکی ضرورت کے مطابق ہے یہ بات یاد رکھیں کہ کسی مخصوص پلان کو متوقع بیمہ دار پر مسلط کرنے سے گریز کیجئے۔ ہزاروں پالیسیوں کی فروخت اس لئے کامل نہیں ہوتی کہ نمائندے بعض اوقات ضرورت سے زیادہ دیریتک بولتے ہیں۔

☆ معمولی تفصیلات اور چھوٹے فیصلوں کی تکمیل:

یہ معلوم کرنے کے لئے کہ ایک شخص بیمہ کے لئے تیار ہے کہ نہیں۔ آپ اس سے ایسے سوالات پوچھیں جن کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جاسکتا ہے۔ مثلاً یہ پوچھیے۔ کیا آپ کی ڈاک گھر کے پتے پر آتی ہے۔ یادفتر کے؟ کیا آپ کی بیمہ کی درخواست کبھی نامنظور ہوئی ہے؟

جب کوئی متوقع بیمہ دار ایسے سوالوں کا جواب دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عملی طور پر دستخط کرنے کے لئے تیار ہے۔ متوقع بیمہ دار کے ذہنی طور پر تیار ہونے یا نہ ہونے کی بابت معلوم کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے سوالات پوچھیں جن کے دو جواب ہو سکتے ہیں مثلاً:

1- آپ کس طرح ادائیگی کرنا پسند کریں گے، سالانہ یا شماہی؟

2- آپ کو ہم گھر کے پتے پر خط لکھیں یا دفتر کے پتے پر؟

آپ تکمیل کرتے وقت اس طرح کے دوسرے سادہ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں:

3- کیا آپ اپنی بیگم کو نامزد کرنا چاہتے ہیں؟

4- آپ کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟

5- آپ چیک سے ادائیگی کریں گے یا نقد؟

6- آپ پالیسی میں کسی کو نامزد کریں گے؟ ان کا نام بتا دیجئے۔

☆ فروخت کی صلاحیت کا پہلا امتحان:

نمائنڈے کی حیثیت سے یاد رکھیں کہ فروخت کے وقت پیچھے ہٹ جانے سے آپ متوقع بیمہ دار کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور خود کو بھی۔

فروخت کی حکمت عملی اور طریقہ کارانے ہیں جتنے کہ نمائندے لیکن کوئی شخص نمائندہ کہلانے کا اس وقت تک اپنے ہو سکتا جب تک وہ پروپرٹی پر دستخط حاصل نہ کرے۔

یہ زندگی کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جس میں خریدنے والا بیچنے والے کے مقابلے میں اتنا زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اگر نمائندہ فروخت کی تیکیل نہ کر سکتے تو اس کا فعل کسی بیوہ اور اس کے بچوں کو غربت اور تنگی میں بٹلا کر سکتا ہے یا اس کی وجہ سے کوئی ہونہار بچہ تعلیم سے محروم ہو سکتا ہے یا بڑھے والدین اپنی اولاد سے مالی اعانت قبول کرنے پر محروم ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ایک مختن نمائندہ فروخت کی تیکیل کرتا ہے تو وہ ایک بیوہ کوتا حیات سرچھپانے کی جگہ اور اس کے بچوں کو معاشرے کی برائیوں سے بچنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ ہونہار لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا موقع دیتا ہے۔ وہ مردوں اور عورتوں کو محبت اور عزت کرنے والے بچوں، پوتے، پوتیوں، نوں، نوائیوں کے ساتھ سکون اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے سامان فراہم کر رہا ہے۔ یہ بچے ان بڑھوں سے اس لئے بھی محبت اور عزت کے ساتھ پیش آئیں گے کہ وہ آزاد اور خود فلیل ہیں۔

یہ مثال کہ "جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ زیادہ کماتا ہے جو زیادہ بہترین خدمت کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ بینے کے سوا کسی اور کام پر اتنی صادق نہیں آتی۔"

یہی وہ موقع ہے کہ نمائندے کو فروخت کی تیکیل کر لینی چاہئے۔

نمائندوں کی کامیابی کے زریں اصول

یہ کمک نمائندے کو اپنے پیشے میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے اپنے مال (Product) یعنی بھروسہ زندگی کے منصوبوں کا پورا پورا عالم ہونا چاہئے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے بہترین اصولوں کا بھی حامل ہونا چاہیے۔ وہ بہترین اصول یہ ہیں۔

- 1- اپنے کام کو منظم طریقے سے سرانجام دینا۔
- 2- اچھی عادات کا رکا حامل ہونا۔
- 3- سوچ اور رویہ کا مثبت ہونا۔

ان کی تفصیل درج ذیل ہے

ذاتی تنظیم ...

آپ کی اپنے پیشے میں کامیابی کئی باتوں پر مختصر ہے۔ لیکن ان میں ایک اہم جزو یہ ہے کہ مندرجہ ذیل امور میں آپ نے کس حد تک اپنے آپ کو منظم کیا ہے۔ اس لئے ان امور پر خاص توجہ دیجئے۔

1- پابندی وقت: خواہ متوقع خریدار سے ملاقات کرنی ہو یا اپنی میٹنگ میں شرکت یا کسی اور کے پاس جانا ہو، میشہ وقت پر پہنچ۔ وقت کی پابندی ضروری ہے۔

2- آداب و شاشستگی: غواہ آپ اپنے گاہک کے پاس بیٹھ کر بات کریں یا اپنے ساتھیوں سے اپنے چھوٹوں سے بات کریں یا بڑوں سے اپنے ماتخوں سے گفتگو کریں یا افسران بالا سے ہر حال میں آداب و شاشستگی کا مظاہرہ کریں۔ آپ کی گفتگو مہذب دل آؤز اور صاف ستری ہونی چاہئے۔ غیر مہذب دل آزار الفاظ کے استعمال سے بد مرگی اور نقصان ہوتا ہے۔ مہذب اور شاشستہ گفتگو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس لئے کہتے ہیں "میٹھے بول میں جادو ہے۔"

3۔ اوقات کار کا تعمین: اپنے کام کے اوقات کی منصوبہ بنندی کیجئے اور اس پر سختی سے عمل کیجئے اور اس بات کی عادت ڈالنے کے روزانہ ایک مقررہ تعداد میں لوگوں سے ملے بغیر گھروپ اپنے نہ لوئیے۔

4۔ دوسروں کی بات سننا: "بولیں کم سینیں زیادہ" جب آپ اپنے متوقع خریدار کو بولنے کا زیادہ موقع دیں گے اور اس کی بات کو غاموشی اور غور سے سینیں گے تو اس کی ضرورت انخواہش اور نقطہ نظر کو بہتر طور پر سن سکیں گے۔ صبر و تحمل اور قوت برداشت: اپنے جذبات پر قابو رکھئے۔ اگر آپ کا گاہک غصہ یا تلخ کلامی کرے پھر بھی آپ تحمل کا مظاہرہ کریں اور غصہ نہ کریں اپنے غصہ پر قابو رکھنا سب سے بڑی بہادری ہے۔

5۔ وعدہ وعید: کبھی بھی ایسے وعدے نہ کریں۔ جنہیں آپ پورا نہ کر سکتے ہوں۔ صاف گوئی اور ایمانداری سے کام لیں۔ اس سے آپ کے وقار میں اضافہ ہو گا۔

کام کی عادات...

بیہم کے پیشہ میں ابتداء سے ہی درج ذیل چند عادات ڈالنے بے حد ضروری ہیں۔

☆ کام کے لئے صحیح جلد گھر سے نکلنے کی عادت۔

☆ معقول حد تک روزانہ نئے متوقع خریداروں کے حصول کی عادت انخواہ وہ بالواسطہ ہوں یا بالواسطہ۔

☆ متوقع خریدار کی ضروریات کا تجزیہ کر کے اہم مالی ضرورت کا تعمین کرنے اور اس کے حل کے لئے موزوں پالیسی پیش کرنے کی عادت۔

☆ فروخت کی منطقی گفتگو (Sales talk) پہلے سے تیار کرنے اور متوقع خریدار کے سامنے مناسب انداز میں مرحلہ وار پیش کرنے کی عادت۔

☆ اپنے پیشہ سے متعلق کتابوں اور رسالوں کے مطالعہ کی عادت۔

☆ متوقع خریدار کے پاس جانے سے پہلے اپنے بریف کیس کو چیک کرنے اور یہ دیکھنے کی عادت کہ تمام ضروری کاغذات و فارم بمعہ ریٹ بک اور

ملاقاتی کارڈ وغیرہ موجود ہیں اور ترتیب سے رکھیں گئے ہیں۔

☆ روزانہ 8 سے 10 گھنٹے تک کام کرنے کی عادت۔

- ☆ ہمیشہ ہشاش بشاش رہنے کی عادت۔
- ☆ ہر ہفتہ کام کرنے کی عادت مثلاً 40 رابطے، 20 ملاقاً تین اور 10 نئے خریداروں کے ناموں کا حصول۔
- ☆ ہر ہفتہ کم از کم ایک پالسی کی تکمیل فروخت (Closing) کی عادت۔
- ☆ پابندی وقت کے ساتھ ایجنسی مینگ میں شرکت اور ثبت رویہ کے ساتھ قیمتی اور مفید مشورے دینے اور قول کرنے کی عادت۔
- ☆ اپنی روزانہ کی کارگزاریوں اور کاروبار کا ریکارڈ رکھنے کی عادت۔

مشتبِ رویہ - مشعل راہ ...

ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ کا واسطہ صرف موقع خریداروں سے نہیں پڑتا بلکہ مختلف فرائض کی بجا آوری سلسلے میں آپ نے فیلڈ آفسران، ایسا یا نیجہ صاحبان، دفتر کے افسران اور عملے سے بھی پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے بیسہ داروں سے میں جوں برقرار کھنا پڑتا ہے تاکہ وہ مطمئن رہے اور فروخت کردہ پالیسیاں برقرار کیں۔ آپ کا ثبت رویہ آپ کو ان تمام طبقات میں ہر دل عزیز بنا سکتا ہے جس سے آپ کے کامیابی کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ اس کے برعکس منفی رویے کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ ساکھ برقرار نہیں رہ سکتی جو ایک اچھے کارکن کے لیے سرمایہ ہوتی ہے۔

اس کاروبار میں وقت ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسی صورتوں میں صرف ثبت رویہ ہی آپ کو وہ روشنی مہیا کرتا ہے جس سے آپ کو اپنی منزل نظر آتی رہتی ہے۔ ثبت رویہ کی اہمیت یوں تو ہر جگہ اور زندگی کے ہر مرحلے پر ہوتی ہے مگر کاروباری زندگی میں دوسروں کے ساتھ اور گفتگو کے دوران اس کا مظاہرہ اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے چنانچہ انسانی نیشنیات پر حالیہ برسوں میں کی گئی تحقیق کی روشنی میں چند باتیں آپ کے نصاب میں شامل کی جا رہیں ہیں۔ جب دو فراد آپ میں گفتگو یا کسی اور ذریعے سے تبادلہ خیالات کرتے ہیں تو ان کارویہ مندرجہ ذیل میں سے ایک ہو سکتا ہے۔

- (ا) دوسروں کو درست اور خود کو غلط سمجھنا
 - (ب) خود کو درست اور دوسروں کو غلط سمجھنا
 - (ج) خود کو بھی اور دوسروں کو بھی غلط سمجھنا
 - (د) خود کو بھی اور دوسروں کو بھی درست سمجھنا
- آئیے ان مختلف رویوں کے اثرات پر کچھ گفتگو ہو جائے۔

(ا) دوسرے کو درست اور خود کو غلط سمجھنا

یہ رویہ احساس کتری کی علامت ہے۔ اس رویہ کا حامل فرد کبھی ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اندر وہ جذبہ بیدار نہیں ہوتا جس کی بناء پر وہ اپنے خیالات کسی کے سامنے اعتماد سے پیش کر سکے۔ وہ بہت جلد مقابل کی بات کا قائل ہو جاتا ہے اور اپنی تجویز کو غلط مان کروا پس لے لیتا ہے کہی نمائندے کو یہ رویہ ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا۔

(ب) خود کو درست اور دوسرے کو غلط سمجھنا

یہ رویہ سب سے زیادہ افسوسناک ہے کیونکہ کسی بھی فرد کے لئے ہمیشہ دوسروں کی بات نفی کرنا اور صرف اپنے آپ کو درست سمجھنا غلط ہے۔ اس سے بحث اور دلائل کی ابتداء ہوتی ہے اور دونوں فریق ایک دوسرے کو دلائل میں پچھڑانے کے لئے پوری کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات نوبت تعلقات کی خرابی یا باقاعدہ لڑائی بھگرے تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک نمائندے کے لئے کسی بھی موقع پر اس رویہ کا مظاہرہ اور بھی زیادہ نقصان دہ ہے کیونکہ یہ "سیلز مین شپ" کی بنیاد ہی کی نفی کرتا ہے۔

(ج) خود کو بھی اور دوسرے کو بھی غلط سمجھنا:

یہ رویہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب وہ خود کو بھی غلط سمجھتا ہے اور دوسرے کو بھی درست نہیں جانتا تو وہ تزبدب کا شکار ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کسی سے ملنے جلنے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے اور کسی اور کا خیال سننے کی کیا ضرورت ہے چنانچہ وہ مایوس ہو کر کوشش ترک کر دیتا ہے اور انتہائی صورت میں معاشرے سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ اس رویہ کا حامل فرد ہمارے پیشے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

(د) خود کو اور دوسرے کو بھی درست سمجھنا:

یہ رویہ صحیت مند سوچ کا نتیجہ ہے۔ جب ایک فرد اپنی بات کو درست سمجھتے ہوئے دوسروں کی بات کی تہہ تک پچھتا چاہتا ہے اور اس کے خیال کی تردید نہیں کرتا تو اسے اپنے خیالات درست سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے اور ان کے خیالات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہی افہام و تفہیم کا راستہ ہے اور ثابت رویہ ہے۔ ایک نمائندے کی کامیابی کے لئے یہ ثابت رویہ نہایت لازمی ہے۔

یقیناً بعض اوقات دوسرے کی بات سے اختلاف بھی کرنا پڑتا ہے مگر انداز اظہار سے یقیناً فرق پڑتا ہے مثلاً کسی سے یہ کہنے کی بجائے کہ "آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ کہنا بہتر ہے" میں آپ کی بات سے انکار نہیں کرتا مگر آپ میری بات پر غور فرمائیں اروپھر فیصلہ کریں" مندرجہ بالا گفتگو سے آپ پر یہ واضح ہو گیا ہو گا کہ ثابت رو یہ لکھنا ضروری ہے۔ اس کا اظہار درج ذیل صورتوں میں ہونا چاہئے۔

☆ اپنے متوقع ہمہ داروں سے نرم اور یٹھے انداز میں گفتگو کرنا۔

☆ اپنے یہم داروں کو پر خلوص خدمات بھم پہنچانا اور ان سے خوشگوار تعلقات برقرار رکھنا۔

☆ اپنے فیڈ افسران کی عزت کرنا اور عملے کے ساتھ تعلقات کے ضمن میں باہمی عزت اور احترام کی نضاء پیدا کرنا اور برقرار رکھنا۔

☆ اپنے کاروباری اہداف ہمیشہ بلند رکھنا۔

... یاد رکھیے! یٹھے بول میں جادو ہے....

بعد آزفروخت خدمات

پالیسی فروخت ہونے کے ساتھ ہی کاروبار ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ تو آپ کے اور بیمہ دار کے درمیان دائمی تعلق کی ابتداء ہے۔ بیمہ عزندگی ایک ایسی خدمت ہے جو بنیادی طور پر متوقع بیمہ دار کے فائدے کے لئے وضع کی گئی ہے یہ کاروبار صرف اسی وقت ترقی کرتا اور پھلتا پھولتا ہے جب اس کے بنیادی فلسفے سے روگردانی نہ کی جائے یعنی متوقع بیمہ دار کے مفاد کو برتری حاصل رہے۔ اگر بیمہ کے فلسفے کو نظر انداز کر دیا جائے تو فروخت کے منصوبے غواہ لکنی ہی ذہانت پر بنی ہوں، جلدیا بدیرینا کام ضرور ہو جاتے ہیں۔ جب تک نمائندہ اپنے کام میں خدمت کا عنصر یا الفاظ دیگر خدمت کا جز بہ برقرار کھٹا ہے، اس کے پاس متوقع بیمہ داروں کی کوئی کمی یا آمدنی کی طرف سے کوئی تشویش نہیں ہوتی۔ نہ ہی تعلقات عامہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر نمائندہ اپنے بیمہ داروں اور متوقع بیمہ داروں سے خلوص برتبے اور محنت و جانفشنائی سے کام کر کے شہرت حاصل کر لے تو عوام میں اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے فطری نتیجے میں فروخت بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ صرف فروخت پر توجہ مرکوز کرنا اور نتائج سے قطع نظر کاروبار میں خدمت کو پس پشت ڈالنا دواراندیشی نہیں ہے اور یہ صرف انہی لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے جو زیادہ عرصہ تک اس کاروبار میں نہیں رہنا چاہتے۔ دراصل ہر فروخت کے پیچھے ایک بڑی مارکیٹ موجود ہوتی ہے جو اپنے نمائندے کے لئے اس ایک فروخت سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ بہت سے بیمہ داروں کے لئے بیمہ عزندگی بچت کا ایک نیا طریقہ ہے۔

آپ کے ذریعہ پالیسی خرید کر متوقع بیمہ دار آپ کے مشورے پر ایک حد تک اعتماد کا اظہار کرتا ہے اور اس اعتماد کو مجموعہ ہونے دینا آپ کا فرض ہے۔

دیانتدار نہ کاروبار کا تقاضہ ہے کہ آپ مندرجہ میں مخصوص خدمات بجا لائیں:

1- پالیسی کے اجراء کے بعد بیمہ دار سے ملاقات اور پالیسی میں درج فوائد، شرائط اور دیگر امور سے بیمہ دار کو روشناس کرانا۔

2- پریمیم کے لئے یادداہی کرانا۔

3- نامزدگی (Nomination) یا تفویض (Assignment) کی دفتر میں رجسٹریشن کرانا۔

- نامزدگی (Nomination) یا تقویض (Assignment)** کے ناموں میں تبدیلی -
- 4 نامزدگی (Nomination) یا تقویض (Assignment) کے ناموں میں تبدیلی -
 - 5 پریمکٹ کی ادائیگی کے وقوف میں تبدیلی -
 - 6 پلان یا میعاد میں تبدیلی -
 - 7 پتہ میں تبدیلی -
 - 8 پالیسی دستاویزات گم ہونے کی صورت میں دوسری بنا کر دینا -
 - 9 بنیے کی رقم میں اضافہ یا کم کرنا -
 - 10 قرض لینے میں مدد کرنا -
 - 11 ساقط پالیسی کی تجدید کروانا -
 - 12 ضمی فوائد (Supplementary Benefits) کی شمولیت یا تنخ -
 - 13 ادائیگی کے دعوؤں کا تصفیہ، زخمی ہونے، نوت ہونے یا پالیسی کی میعاد ختم ہونے کی صورت میں مدد کرنا -
- چھوٹی چھوٹی خدمات کو جلا کر آپ اپنے کاروبار اور اپنی آدمی میں استقامت پیدا کر سکیں گے۔ مطمئن یہ ہے دارصrf آپ ہی سے کاروبار کرے گا۔ اس طرح آپ کئی اور پالیسیاں فروخت کر سکیں گے۔ مزید لوگوں سے تعارف ہوگا اور بازار میں آپ کی پیشوارانہ سماحت قائم ہو جائے گی۔
- یاد رکھئے ایک غیر مطمئن یہ سعدار آپ کو اتنا نقسان پہنچا سکتا ہے جتنا فائدہ شاید سو مطمئن یہ سعدار بھی نہ پہنچا سکیں۔

ice-agency-grand-rapids-mi-arms-insur
not found.

کالعدم پالیسیاں

اور

کاروبار میں تسلسل کی اہمیت

جاری پالیسی مطمئن بیمه دار اور نمائندہ اسٹیٹ لائف کے لئے ہمیشہ اشتہار کا کام دیتے ہیں۔ ساقط یعنی کالعدم Lapsed پالیسی ایک لعنت ہے۔ اس سے ایک منفی عمل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کا اثر صرف نمائندے اور اسٹیٹ لائف پر ہتی نہیں ہوتا بلکہ نمائندوں کی پوری برادری کا وقار اور خود بیمه زندگی کا تصور بھی محروم ہوتا ہے۔ یہ عمل برا باتا کن ہے اور اس کے اثرات بڑے دورس ہوتے ہیں۔ پالیسی کو جاری و ساری رکھنا فروخت کے بعد کی اہم ترین خدمت ہے۔ وہ تحفظ جس کی بیمه دار کو اتنی شدید ضرورت ہے اور جسے نمائندہ اتنی محنت سے فروخت کرتا ہے، بے عمل ہو جاتا ہے۔

پالیسی کے کالعدم ہونے سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بیمه دار ادا شدہ پر یقینیم کھو دیتا ہے۔ وہ اور اس کا خاندان نہ صرف اپنی بچت سے بلکہ ایک اہم تحفظ سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ نمائندہ اپنے تجدیدی کمیشنوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور یک بیمه دار کو کھو دیتا ہے، ایک مرکز اثر سے محروم ہو جاتا ہے، اپنی اور اپنے یونٹ کی نیک نامی کو محروم کر دیتا ہے، وہ اس کی خدمات کی کوئی قیمت رہتی ہے اور نہ بیمه زندگی کی کوئی قدر و منزلت۔ پالیسی کا لعدم ہو جانا ایک الیہ سے کم نہیں اور اس کی پیشتر ذمہ داری نمائندے کے کانڈھوں پر ہے جس نے بیمه دار اور اس کے خاندان کے تحفظ کے لئے کچھ نہ کیا۔ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کیں، جس نے بیمه دار کی خدمت کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا، جس نے اپنے پیشے کی نیک نامی پروفیشن کی پرواہ نہ کی۔

ہر پالیسی ایک ضرورت پوری کرتی ہے، خاندان کے لئے آمدنی، رہن سے نجات، بچوں کی تعلیم، ریٹائرمنٹ، بیماری کی صورت میں، غرض کسی بھی مقصد کے حصول کی ضرورت ہو سکتی ہے، لہذا ایک اچھی پالیسی سے ہاتھ دھو بیٹھنا ان تمام فائدوں سے کنارہ کشی کے متراوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزی کمانے والے کی ناگہانی قبل از وقت موت کی صورت میں خاندان کو اپنے مستقبل کی خوف کرنی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس بیمه زندگی کے بغیر فروفارہ کی نوبت آجائے۔ بینہ نما ندرے کیلئے بیمه زندگی کی فروخت کے پُرشش پہلوؤں میں سے ایک بھی ہے کہ تجدیدی پرینتم کے ذریعے ایک معقول آمدنی کی صورت نکل آتی ہے۔ آمدنی کے اس بنے بنائے و سیلے کو ہرگز نظر اندازنا کیجئے۔ اگر آپ کا کار و بار جاری رہے تو اس سے آپ کو بڑے واضح فائدے حاصل ہوں گے۔

آپ کی جاری پالیسیاں:

- 1۔ آپ کے لئے ایک ایسی متوار آمدنی کا ذریعہ بنیں گی جو خود بخود اور مسلسل بڑھتی ہی جائیں گی۔
- 2۔ اگر خدا نخواستہ آپ طویل عرصہ تک بیمار رہیں تو آپ کو آمدنی کی تنشیش سے نجات دلائیں گی۔
- 3۔ جب تک نیا کار و بار سردر ہے گا اور جب بازار میں فطری اتارچ ہاؤ ہوں گے تو آپ کی ضرورت پوری کریں گی۔
- 4۔ آپ کے لئے ریٹائرمنٹ کی آمدنی پیدا کریں گی۔
- 5۔ اگر آپ خدا نخواستہ زندہ نہ رہیں تو آپ کے خاندان کے لئے آمدنی کا وسیلہ بنیں گی۔
- 6۔ مطمئن بیمہ دار آپ کو کے لئے ہمیشہ مزید کار و بار کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔

آپ پالیسیوں کو کا لعدم ہونے سے روک سکتے ہیں اگر آپ

1۔ معتبر متوقع بیمہ داروں کی تلاش میں رہیں

ایسے بیمہ دار جن میں بیمہ زندگی خریدنے اور اسے جاری رکھنے کی صلاحیت اور اہلیت ہے اور وہ لوگ جو بار بار بیمہ خریدیں گے، پسندیدہ خواص کی فہرست میں آمدنی اور پیشہ کی پائیداری، خاندان اور بیمہ زندگی کی طرف صحت مندرجہ، بیمہ زندگی کی سابقہ ملکیت شامل ہیں۔ سابق پالیسیوں کا کا لعدم ہو جانا کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل بیماری بھی ہو سکتی ہے۔

2۔ درخواست کے ساتھ معقول رقم نقد حاصل کر لیں:

اس سے فروخت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس سے نہ لی جانے والی پالیسیوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے۔ لہذا فروخت، وقت، محنت اور آخر کار رقم کے زیاد کو کم کرتی ہے۔ یہ خاندان کے فوری تحفظ کے بھی مترادف ہے۔

3۔ پریمیم کی مقدار کی ادائیگی کے وقفے کو متوقع خریدار کے حسب حال رکھیں:

اگر آپ کو صرف سالانہ پریمیم ہی میں تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے لیکن یہ عملی طور پر ناممکن ہے کیونکہ سالانہ پریمیم کی نیاد پر بیمه فروخت کرنے سے کچھ بیمہ داروں کو مقررہ تاریخ پر گلا پریمیم ادا کرنے میں مشکل ہو گی۔ بعض صورتوں میں ایک سہ ماہی پریمیم والی پالیسی سالانہ پالیسی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے لیکن مجموعی طور پر، سالانہ اور شماہی وقفوں والا بیمه زیادہ پائیدار ہو گا اور سہ ماہی یا مہینہ طریق ادائیگی والے یہی کی نسبت زیادہ عرصہ تک برقرار ہے گا۔

4۔ ضروریات کی بنیاد پر بیمه کی فروخت کریں:

جو بیمه کسی مخصوص ضرورت کے تحت فروخت نہ ہو، وہ ابتداء ہی سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب بیمه کسی مخصوص ضرورت کو تحفظ دیتا ہے اور بیمہ دار بھی اس حقیقت کو سمجھتا ہے تو بیمہ دار کی کوشش کے بغیر بیمه سے دست برداری کا اندر یہ کم ہو جاتا ہے۔ تصفیاتی اختیار (Settlement Option) کے استعمال سے بیمہ کی کسی اکائی کے استمرار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

5۔ پالیسی بیمہ دار کو ملنے کے بعد اس کے فوائد بتائیں:

درخواست پر دستخط کرنے اور نئی پالیسی وصول کرنے کے درمیانی وقفے میں بیمہ دار کی امنگ خاصی سرد پڑ سکتی ہے، لہذا آپ بیمہ دار کو یہ سمجھائیں کہ اس نے کتنا قیمتی اثاثہ خریدا ہے اور بیمہ دار کے مجموعی پروگرام میں اس کا کیا خاص مقام ہے۔ اس طرح بیمہ دار، بیمہ پالیسی اور آپ کی خدمت کے بارے میں دوبارہ نئی رائے قائم کرے گا۔ اچھی رائے اس کو بیمہ چھوڑنے سے باز رکھے گی۔

6۔ اوسط فروخت کی زیادہ مقدار کی کوشش کریں:

اوسط بیوں کی زیادہ تعداد آمدی سے براہ راست تعلق رکھتی ہے اور موخر الذکر ہی غالباً بیونس کی پائیداری پر حقیقی اثر مرتب کرتی ہے۔ مزید برآں پالیسی کی مالیت، آپ کی آمدی اور آپ کے کام کی مقدار کا پوری لیشن کے اخراجات کے

لئے بے حد اہم ہے لہذا مناسب ہے کہ کوائی کے برس پر گفتگو کرتے ہوئے اس امر کو پیش نظر رکھیں۔

7۔ تحفظ کی عارضی اقسام صرف ضرورت کے وقت فروخت کریں:

میقانی بیسہ پالیسیاں بالعموم زیادہ کا عدم ہوتی ہیں اور یہ دوسرے نمائندوں کے ہاتھوں تبدیلی یا تبادلہ کا شکار ہو سکتی ہیں لہذا اجتناب جلد ہو سکے، میقانی بیسہ کو میعادی پالیسی میں تبدیل کر دیجئے۔

8۔ دوسرے پر یمنہم کی حصولی کے لئے کوشش کریں:

تحقیق سے ثابت ہو ہے کہ بہت سی پالیسیاں محض دوسرے پر یمنہم کی عدم ادا یا گی کے باعث کا عدم ہو جاتی ہیں خواہ پر یمنہم سالانہ ہو، شماہی، سہ ماہی ہو یا ماہانہ، لہذا جب دوسرے پر یمنہم ادا کرنے کا وقت آئے تو اپنے نئے بیسہ دار سے ملا نہ بھولئے۔ اس سے بات چیز کا کوئی بہانہ ڈھونڈ دیئے۔ اس کے نئے معابرے کا فاضل پہلو بتائیے، بیسہ زندگی خریدنے کی امنگ دوبارہ پیدا کیجئے اور ہر مکمل کوشش کیجئے کہ دوسرے پر یمنہم ادا ہو جائے۔ اگر بیسہ دار اس کے بعد بھی معتبر معلوم نہ ہو تو تیرے پر یمنہم کا بھی تعاقب کیجئے۔

9۔ اپنے بیسہ داروں سے تعلق برقرار رکھیں:

ہر بیسہ دار سے سال میں کم از کم ایک مرتبہ تجدید ملاقات کیجئے۔ سالگردہ پر یا کسی اور تقریب میں یا جب اس کی بڑھتی ہوئی ضروریات کا علم ہو تو ضرور بالضرور بیسہ دار سے ملینے۔ بدی ہوئی ضروریات کی وجہ سے بیسہ پلان یا پر یمنہم کی ادا یا گی کے وقته میں تبدیلی سے پالیسی کو جاری رکھنے میں یقیناً مدد ملے گی۔
میں ایک کا عدم بیسہ پالیسی ہوں:

کبھی میں امید، یقین اور تحفظ کی صفات تھی۔ زندگی کی حرارت سے بھر پور اور تو انداختی۔ درحقیقت میں کھانا، کپڑا اور سرچھانے کی جگہ تھی۔ میرے اندر گھر بنانے، قرض ادا کرنے، بچوں کی تعلیم دلانے، زندگی کی آسانیش مہیا کرنے کی طاقت تھی۔ میں بے یقین کو یقین میں بدل دیتی تھی، ایک کاغذ کا ٹکڑا جو پلک جھپٹنے میں املاک بن سکتا تھا۔
پھر وہ جس کی زندگی کا بیسہ میں نے کیا تھا چلا گیا اور بیوہ پر ساری ذمہ داریوں کا بوجھ آن پڑا۔ مجھے دراز سے نکال کر گرد جھاڑی گئی اور میں بیوہ کو چونک کر سانس کھینچتے اور پھر ماہیتی سے روتے سننا۔ اس کی سکسیاں دل کو پارہ پارہ کئے دیتی تھیں۔ اس کے آنسو میرے شکن آں لو چہرے کو تر کر رہے تھے۔ اس کی امید خاک میں مل گئی۔ دل پارہ پارہ ہو گیا۔ اس کا تحفظ ختم ہو گیا، کھو گیا۔

بی ہاں! میں ایک منقطع پالیسی ہوں۔ میری زندگی اور قوت ختم ہو چکی ہے۔ میں کسی گر کونیں بچا سکتی۔ کوئی
قرض ادا نہیں کر سکتی، کسی بچے کو تعلیم نہیں دلا سکتی، کوئی آرام، کوئی آسانش مہیا نہیں کر سکتی۔

میں نہ اٹا شہوں نہ املاک ☆

میں الیہ ہوں اور دکھوں کی پیامبر، ایک مذاق ☆

ایک منقطع پالیسی کی فریاد ☆

ریکارڈ کی اہمیت

تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کوئی کار و بار یا ادارہ اسوقت تک کامیابی کا تسلسل برقرار نہیں رکھ سکتا جب تک وہ اپنی سرگرمیوں کا باقائدہ ریکارڈ نہ رکھے۔ وہ نمائندے جو اپنی کار و باری سرگرمیوں کا تحریری ریکارڈ نہیں رکھتے وہ کچھ عرصے بعد ہی ناکامیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

باقائدہ ریکارڈ رکھنے کے بہت سے فائدے ہیں جس میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔

☆ گزرتے وقت کاریکارڈ مستقبل کی منصوبہ سازی میں مدد دیتا ہے۔

☆ ریکارڈ کے ذریعے ہم اپنی مارکیٹ کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔

☆ ریکارڈ ہماری گزشتہ کارکردگی اور کامیابیوں کی عکاسی کرتا ہے۔

☆ ریکارڈ رکھنے کی وجہ سے ہم اپنے کام بہتر اور منظم انداز سے کر سکتے ہیں۔

☆ ہفتہوار فروخت کا منصوبہ:

اس سے آپ کو اپنادن تقریباً نصف گھنٹے کی متعدد مصروفیتوں میں تقسیم کرنے میں مدد حاصل ہوگی اور آپ کو یہ معلوم ہو گا کہ ہر نصف گھنٹہ پر آپ کو لیکا کرنا ہے۔ جب آپ ان نصف گھنٹوں کی طرف سے محتاط ہوں گے تو آپ کا سال روای کا جتنی مقصود خود بخود پورا ہو جائے گا۔ روزانہ بہترین نتائج حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہر شام کو بیٹھ کر آئندہ دن کیلئے ہر گھنٹے کا لائچہ عمل مرتب کریں۔ دن کا لائچہ عمل مرتب کرتے ہوئے احتیاط رکھنی چاہئے کہ تمام مصروفیات ایک ہی بستی یا محلے میں ہوں، سارے شہر میں پھیلی ہوئی نہ ہوں۔ اس طرح سڑک پیامی کم ہوگی اور بہت وقت بچے گا۔ ہر طے شدہ ملاقات کے عوض اسی پڑوں میں ایک تبادل ملاقات کا انتظام رکھنا بہتر ہے تاکہ اصل ملاقات نہ ہو سکے تو وقت ضائع نہ ہو، اس قسم کی منصوبہ بندی وقت کے تصحیح استعمال کے لئے لازمی ہے۔

منصوبہ بنانا اچھی چیز ہے لیکن اس پر عمل کرنا ذیادہ اہم ہے۔ جب تک آپ کا منصوبہ آپ کی محنت اور مالی ضروریات کے پیش نظر خود پر لازم کرنے والے روزمرہ کی تکمیل سے عبارت نہ ہو محض رہی کاغذ کھلائے گا اور آپ کی منزل آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی۔

متوقع خریداروں کا کارڈ: یہ کارڈ متوقع بیمہ دار کے کوائف کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس متوقع بیمہ دار کے بارے میں تمام اطلاعات اور کارگزاری کا اندر اج ہوتا ہے جو اسی کو دوسرا بیمہ پالیسی فروخت کرتے وقت کام آتا ہے۔ اس کا غذ کی پشت پر "ضروریات" کی فہرست ہوتی ہے۔ اس میں کسی ایک "ضرورت" کا احساس دلا کر متوقع بیمہ دار کو مزید پالیسی لینے پر مائل کیا جاتا ہے اس سے اس اثر و یو میں بڑی مدد ملتی ہے جو حقائق معلوم کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں تمام متوقع بیمہ داروں کے یہ کارڈ، خواہ آپ نے ان کو بیمہ فروخت کیا ہو یا نہیں فائل کی صورت میں محفوظ رکھنے چاہئیں، عین ممکن ہے کہ آپ کو ان کی دوبارہ ضرورت پیش آئے۔

پالیسی رجسٹر: آپ نے جو پالیسیاں فروخت کی ہیں، ان کا ایک رجسٹر مرتب کیجئے۔ یہ رجسٹر آپ کا زون مہیا کرے گایا آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں۔ رجسٹر میں اس قسم کی معلومات ہوں گی جیسے پالیسی نمبر، تاریخ درخواست بیمہ دار کا نام اور پتہ، تاریخ پیدائش اور عمر، کیا بیمہ دار کی عمر تسلیم کر لی گئی، بیمہ کی رقم، بیمہ کا پلان پر یکم پر یکم کی ادائیگی کا وقفہ (سالانہ، شمسیاتی وغیرہ) تاریخ ادائیگی، آخری پر یکم دینے کی تاریخ، دوسری پالیسیوں کے نمبر وارث کا نام۔

وقت کار: جس آدمی کو روزانہ مختلف قسم کے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، وہ خوب جانتا ہے کہ وقتوں کار مرتب کرنا اس کے لئے کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ روز ناچے میں اگر ہر دن کے لئے ایک صفحہ منفصل ہوتا چاہے۔ اس سے آپ کو اپنے روزانہ پروگرام مرتب کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ نام پتے، فون نمبر، جو اس دن آپ کو معلوم ہوں گے، لکھ سکیں گے۔ لیکن وقت کار کے بعد یہ تمام نام پتے وغیرہ فوری طور پر اپنی متوقع بیمہ داروں کی کتاب میں منتقل کر لیجئے۔

متوقع بیمہ داروں کی کتاب: ریکارڈ رکھنے کا یہ ایک اور طریقہ ہے۔ یہاں اس کا نمونہ اس لئے نہیں دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ اپنے سیلز میجر کے تعاون سے اپنے لئے متوقع بیمہ داروں کی کتاب خود ہی مرتب کرنا پسند کریں۔